

Ketabton.com



رَعِيَايَ سِيِّدِي بِرَفْعِ يَدِي عَائِشَةَ
 جبل خوب حضرت ابو بکرؓ ته نو راتہ نے او فرمائیل چہ اے عائشہ ضرور
 لَيْدُ فَنَنْ فِي بَيْتِكَ ثَلَاثَةَ هُمْ خَيْرٌ أَهْلِ
 بہ دفن کولے شی ستا بہ کور کنیے درے داسے سہری چہ ہفہ بہ بہترین
 الْأَرْضِ فَلَمَّا تَوَفَّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 وی دزمکہ بہ خلقو کنیے، نو کله چہ وفات شو رسول اللہ صلی اللہ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدُفِنَ فِي بَيْتِي قَالَ لِي
 علیہ وسلم او دفن کرے شو خما بہ کور کنیے نو راتہ او فرمائیل
 أَبُو بَكْرٍ هَذَا أَوْ أَحَدٌ مِّنْ أَقْبَارِكِ وَهُوَ
 ابوبکرؓ چہ دا ہفہ یوہ سیورمن دہ ستا بہ سیورن مو کنیے او دا
 خَيْرُهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ
 زیاتہ بہترہ دہ بہ ہغو کنیے، رحمت داللہ دوی بہ ہغوی باندے او بہ
 وَسَلَّمَ كَثِيرًا
 آل دھغوی او دیر دیر سلام دوی

أَلْحِزْبُ الْأَوَّلُ
 دا رومے حزب دے
 قَصْلٌ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ
 فصل دے بہ کیفیت د درود لیکلو کنیے بہ نبی کریم
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 صلی اللہ علیہ وسلم باندے
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 شروع کوم داللہ بہ نوم سرہ چہ دیر مہربان دیر رحم کونکے دے
 صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
 رحمت داللہ دوی بہ سردار او مولیٰ زمونیر محمد باندے
 وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
 او بہ آل دھغوی او بہ اصحابو دھغوی او سلام
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ
 اے اللہ رحمت او لیرے بہ سردار زمونیر محمد باندے او

اَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَيَّ

پہ بیبیانو دھغوی او پہ اولاد دھغوی خنگہ چہ تار حمت لیکلے دے پہ

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا اِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَيَّ

سردار او مولا زمونیر ابراهیم باندے او برکت او لیجے پہ

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَازْوَاجِهِ

سردار او مولا زمونیر حضرت محمد باندے او دھغوی پہ بیبیانو

وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَيَّ اِلٰى سَيِّدِنَا

او دھغوی پہ اولاد باندے خنگہ چہ تار برکت لیکلے دے پہ سردار زمونیر

وَمَوْلَانَا اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

او پہ مولا زمونیر ابراهیم باندے بیشکہ تہ ڈیر ستائیلے شومے لوئی والائے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

اے اللہ رحمت او لیجے پہ سردار زمونیر او پہ مولا زمونیر حضرت

مُحَمَّدٍ وَعَلَيَّ اِلَيْهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَيَّ

محمد باندے او دھغوی پہ آل باندے خنگہ چہ تار حمت لیکلے دے پہ

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا اِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَيَّ

سردار زمونیر او پہ مولا زمونیر ابراهیم باندے او برکت او لیجے پہ

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَيَّ اِلٰى

سردار زمونیر او پہ مولا زمونیر حضرت محمد باندے او پہ آل

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ

دسردار او مولا زمونیر حضرت محمد باندے خنگہ چہ تار برکت لیکلے دے

عَلَيَّ اِلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا اِبْرَاهِيمَ فِي

پہ آل دسردار او مولا زمونیر حضرت ابراهیم باندے پہ

اَلْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ

عالمونو کنے بیشکہ تہ ڈیر ستائیلے شومے اور دلویئے والائے اے اللہ

صَلِّ عَلَيَّ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَ

رحمت او لیجے پہ سردار او مولیٰ زمونیر حضرت محمد باندے او پہ

اِلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ

آل دسردار او مولا زمونیر حضرت محمد باندے خنگہ چہ تار حمت لیکلے دے



عَلَى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

زمنور سردار ابراهيم باندے او برکت اولیرے پہ سردار زمنور

مُحَمَّدٍ وَ اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ

محمد باندے او پہ آل دسردار زمنور محمد باندے خنکے چہ تارکت لیکلے دے

عَلَى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ

زمنور پہ سردار ابراهيم باندے بیشکے ته دیر ستائیلے شومے

مَجِيدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اولونی والائے اے خدایه رحمت اولیرے پہ سردار زمنور

مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى اِل سَيِّدِنَا

محمد باندے چہ نالوستے نبی دے او پہ آل دسردار زمنور

مُحَمَّدٍ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد باندے اے اللہ رحمت اولیرے پہ سردار زمنور

مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ ۝

محمد باندے چہ ستا بندہ دے او ستا رسول دے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ رحمت او لیرے خمونیر پہ سردار محمد باندے او پہ

اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا

آل دسردار زمنور محمد باندے خنکے چہ تارحمت کر دے پہ سردار زمنور

اِبْرَاهِيمَ وَعَلَى اِل سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ

ابراهيم باندے او پہ آل دسردار زمنور ابراهيم باندے بیشکے ته

حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

دیر ستائیلے شومے ته دلونی والائے اے اللہ برکت اولیرے پہ زمنور پہ سردار

مُحَمَّدٍ وَعَلَى اِل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

محمد باندے او پہ آل دسردار زمنور محمد باندے خنکے چہ ته

بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيمَ وَعَلَى اِل

برکت لیرے دے پہ سردار زمنور ابراهيم باندے او پہ آل

سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

دسردار زمنور ابراهيم باندے بیشکے ته دیر ستائیلے شومے اولونی والائے

اللَّهُمَّ وَتَرْحَمْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

ای الله اور رحم او کرے پہ سردار زمونیر محمد باندے او

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَرْحَمْتَ

پہ آل د سردار زمونیر محمد باندے خنکہ چہ رحمت کریدے

عَلَى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

پہ سردار زمونیر ابراہیم باندے او پہ آل د سردار زمونیر

اِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ

ابراہیم باندے بیشکہ تہ دیر ستائیلے شوے او دلونی خاوند نے ایے الله

وَتَحَنَّنْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

او مہربانی او کرے پہ سردار زمونیر محمد باندے او پہ آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تَحَنَّنْتَ عَلَي سَيِّدِنَا

د سردار زمونیر محمد باندے خنکہ چہ تامہربانی کرے دہ پہ سردار زمونیر

اِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ

ابراہیم باندے او پہ آل د سردار زمونیر ابراہیم باندے بیشکہ تہ

حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَي

دیر ستائیلے شوے او دلونی خاوند نے ایے الله او سلام اولیرے پہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سردار زمونیر محمد باندے او پہ آل د سردار زمونیر محمد باندے

كَمَا سَلَّمْتَ عَلَي سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيمَ وَعَلَى

خنکہ چہ تا سلام لیرے دے پہ سردار زمونیر ابراہیم باندے او پہ آل

آلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝

د سردار زمونیر ابراہیم باندے بیشکہ تہ دیر ستائیلے شوے او دلونی خاوند نے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ایے الله درود اولیرے پہ سردار زمونیر محمد باندے او پہ آل

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا

د سردار زمونیر محمد باندے اورحم او کرے پہ سردار زمونیر محمد باندے

وَأَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَي سَيِّدِنَا

او پہ آل د سردار زمونیر محمد باندے او برکت اولیرے پہ سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

محمد باندے او بہ آل د سردار زمونیر محمد باندے خنکہ چہ تا

صَلَّيْتَ وَرَحِمْتَ وَبَارَكْتَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

درو دلیرے دے اور رحمت دنازل کرے دے اوبرکت دلیرے دے بہ سردار زمونیر

إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي

ابراہیم باندے او بہ آل د سردار زمونیر ابراہیم باندے بہ

الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ

عالمو کنہے بیشکہ تہ دیر ستائیلے شوئے، دلوی خاوندئے، اے اللہ

صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ

درو داو لیرے بہ سردار زمونیر محمد باندے خوک چہ نبی دے او بہ بیبانو

أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ

دھغوی چہ دمومانو میندے دی او بہ او لاددھغوی باندے او بہ اهل بیتو

بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ

دھغوی خنکہ چہ تا درود دلیرے دے بہ سردار زمونیر ابراہیم باندے

إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ بَارِكْ

بیشکہ تہ دیر ستائیلے شوے دلوی خاوندئے اے اللہ، برکت او لیرے

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

بہ سردار زمونیر محمد باندے او بہ آل د سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ

محمد باندے خنکہ چہ دبرکت لیرے دے بہ سردار زمونیر ابراہیم باندے

إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ دَاخِيَ الدَّحْوَا

بیشکہ تہ دیر ستائیلے شوے، دلوی خاوندئے، اے اللہ ذمکو

وَبَارِئِ الْمَسْمُوكَاتِ وَجَبَّارِ الْقُلُوبِ

فرش غورونکیہ او پیدا کونکیہ داو چتو آسمانو نو او مجبورونکیہ دزرونو

عَلَىٰ فِطْرَتِهَا شَقِيهَا وَسَعِيدِهَا اجْعَلْ

بہ پیدا کولو دھغوی بدبختہ دھغوی او نیک بختہ دھغوی او گر خوم

شَرَّ آيَفَ صَلَوَاتِكَ وَتَوَافِي بَرَكَاتِكَ

عزتمند رحمتونہ خپل او زیاتیدونکی برکتونہ خپل

وَرَاةَ تَحَنُّنِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

او لوئے مہربانی خہلے زمونیر پہ سردار محمدؐ باندے

عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقُ

چہ ستابندہ اور رسول دے کوم چہ پرانستونکے دے دھغہ خیز چہ بندوو

وَالخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ وَالْمُعَلِّينَ الْحَقِّ

او ختمونکے دھغہ خیز چہ تیرشومے دے او ظاہرونکے دحق دے

بِالْحَقِّ وَالِدَامِغِ لِحَبِشَاتِ الْبَاطِلِ

پہ راستی سرہ او ماتونکے دے دباطلو لبیکرو خنگہ چہ راپورتہ

كَمَا حُمِلَ فَاضْطَلَعَ بِأَمْرِكَ بِطَاعَتِكَ

کرمے شوی ووپس تیارشوستاپہ حکم باندے ستافرمان برداری ته

مُسْتَوْفِرًا فِي مَرْضَاتِكَ وَأَعْيَا لَوْحِيكَ

تلوار کونکے پہ ستا رضامندی کنہی خیال ساتونکے دے ستا دوحی

حَافِظًا لِعَهْدِكَ مَا ضِيًّا عَلَى نِقَازِ أَمْرِكَ

حفاظت کونکے دے دلوظ ستابوتلونکے دے ستادحکم پہ نافذ کولو

حَتَّىٰ أُرَى قَبَسًا لِقَائِيسٍ لَأَيُّ اللَّهِ تَصِلُ

تردے پورے چہ رویشانہ نے کرہ دنور شغلہ دیارہ درناخستونکی دالله نعمتہ

بِأَهْلِهِ أَسْبَابُهُ بِهِ هُدِيَّتِ الْقُلُوبُ

پوخائے کوی اهل خیل خیلوسیبونوسرہ دھغوی پہ ذریعہ ہدایت کرمے شومے

بَعْدَ خَوْضَاتِ الْفِتَنِ وَالْإِثْمِ وَأَبْهَجَ

دے زبونوتہ روسو ددوبیدلونہ پہ فتنو او گناہونو کنہی او زینت نے ورکرو

مَوْضِعَاتِ الْأَعْلَامِ وَنَائِرَاتِ الْأَحْكَامِ

خلیدونکو نشانونوتہ او حکمونہ خلونکو

وَمُنِيرَاتِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ أَمِينُكَ

او دا سلام رویشانہ کونکو خیزونو لرہ پس ہغہ امین دے

الْمَأْمُونُ وَخَازِنُ عِلْمِكَ الْمَخْرُوجُ

ستا امن ورکرمے شومے اونکھیان دے ستا دہبت علم

وَشَهِيدُكَ يَوْمَ الدِّينِ وَبِعَيْتِكَ نِعْمَةٌ

او گواہ ستا دے پہ روح دجزا او ستا رالیرے شومے نعمت دے

وَرَسُولِكَ بِالْحَقِّ رَحْمَةً ۝ اَللّٰهُمَّ

اور رسول ستادمے پہ حق سرہ سراسر رحمت دے امے اللہ فراخ کرے

اَفْسَحْ لَهُ فِي عَدْنِكَ وَاَجْرُهُ مُضَاعَفًا

ہفہ دپارہ خائے دہفہ پہ خیل جنت کنیے اوبدلہ ور کرے ہفہ لہ ددو چندو

الْخَيْرِ مِنْ فَضْلِكَ مُهْتَابٌ لَّهُ غَيْرُ

نیکیانو دخیل فضل نہ چہ خوشگوارہ وی ہغوی د پارہ بغیر

مُكَدَّرَاتٍ مِّنْ فَوْزِ تَوَائِكَ الْمَحْلُولِ

ذکدورت نہ سرہ دکامیابی دثواب ستاکوم چہ نازل کرے شوے دے

وَجَزِيلٍ عَطَايِكَ الْمَعْلُولِ ۝ اَللّٰهُمَّ

او دلونے ور کرے ستا کومہ چہ پرلہ پسے راتلونکے دہ۔ امے اللہ

اَعْلٍ عَلَى بِنَاءِ النَّاسِ بِنَاءً وَ اَكْرَمٍ

اوجت کرے پہ آبادی دخلقو آبادی دہغوی او عزتمندہ کرے تہکانہ

مَثْوَاهُ لَدَيْكَ وَ نُزُلُهُ وَ اَتَيْمَةٌ لَّهُ

دہغوی خیل خان سرہ او میل مستیادہغوی او پورہ کرے ہغوی دپارہ

نُورَهُ وَاَجْرُهُ مِنْ اِبْتِعَاثِكَ لَهُ

نور دہغوی اوبدلہ ور کرے ہغوی تہ پہ خیلوراپور تہ کولوسرہ ہغوی لہ

مَقْبُولِ الشَّهَادَةِ وَ مَرْضَى الْمَقَالَةِ

مقبول والے د گواہی او خوبش والے ذخیرو

ذَا مَنْطِقٍ عَدْلٍ وَ حُطَّةٍ قَصْلِ وَ

کومہ چہ د انصاف گویائی دہ او فیصلہ دشان والا او

بُرْهَانٍ عَظِيمٍ ۝ اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلَائِكَتَهُ

لونے حجت والا پئے۔ بیشکہ اللہ تعالی او فرشتے دہفہ

يُصَلُّونَ عَلٰى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

رحمت لیبری پہ نبی باندمے۔ امے ایمان والو

صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝ لِيَّبِيكَ

درو دا لیبری پہ ہفہ باندمے او سلام پراو لیبری دیر سلام۔ زہ ستا خدمت تہ

اَللّٰهُمَّ رَبِّي وَسَعْدَيْكَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ

حاضریم امے اللہ خمار بہ او مدد کوم (ستا ددین) رحمتونہ د اللہ

الْبَرِّ الرَّحِيمِ وَالْمَلِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

احسان کونکي مہربان او ذ مقربو فرشتو

وَالنَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

او د پیغمبرانو او صدیقانو او شہیدانو

وَالصَّالِحِينَ وَمَا سَبَّحَ لَكَ مِنْ شَيْءٍ

او نیک بختانو او ہفہ چہ پاکی بیانوی ستا دھر خیزنہ

يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے پروردگارہ د عالمونو پہ سردار زمونیر محمد

ابن عبد الله خاتم النبیین وسید

خونے د عبد اللہ چہ آخری پیغمبر دے او سردار

المرسلین وإمام المتقین ورسول

د رسولانو دے او امام دہر ہیزگارانو او رسول

رب العالمین الشاہد لبشیر الداعی

د رب العلمین دے. گواہی ورکونکے 'زیرے ورکونکے رابلونکے

إِلَيْكَ يَا ذنِكَ السِّرَاحِ الْمُنِيرِ وَعَلَيْهِ

ستا طرف تہ ستا پہ حکم سرہ چراغ روپناہ او پہ ہغوی د

السَّلَامُ ۝ أَللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ

سلام وی. اے اللہ نازل کرے رحمتونہ خپل

وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

او برکتونہ خپل او مہربانی خپلہ پہ سردار د مرسلانو

وَأَمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتِمِ النَّبِيِّنَ

او پہ امام دہر ہیزگارانو او پہ ختمونکے پیغمبرانو

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ

پہ سردار زمونیر محمد باندمے چہ ستا بندہ او رسول دے

إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ

امام د نیکی دے او راہنکونکے دنیکی دے او رسول

الرَّحْمَةِ ۝ أَللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا

د رحمت دے. اے اللہ ہا سوسے ہغوی لره مقام

مَحْمُودًا يَغِيظُهُ فِيهِ الْاَوْلُونَ وَ

محمود ته چه پسخیدل ورته او کړي په هغه کېنې مخکني او

الْاٰخِرُونَ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

روستوني. اے الله رحمت او لېرې په سردار زمونږ

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ

محمدبانده او په آل د سردار زمونږ محمدبانده څنگه چه در رحمت ليكلې دے

عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ ۝

په سردار زمونږ ابراهيم بانده بيشكه ته ډير ستايله شوم دلوي خاوند ئے

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

اے الله برکت او لېرې په سردار زمونږ محمد بانده او په

اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى

آل د سردار زمونږ محمد بانده څنگه چه در برکت ليكلې دے په

سَيِّدِنَا اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ ۝

سردار زمونږ ابراهيم بانده بيشكه ته ډير ستايله شوم دلوي خاوند ئے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

اے الله رحمت او لېرې په سردار زمونږ محمدبانده او په آل د هغوی او په

اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَوْلَادِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَ

اصحابو د هغوی او په اولاد د هغوی او په بیانو د هغوی او په بچو

ذُرِّيَّتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَ

د هغوی او په اهل بیتو د هغوی او په سخر کنی د هغوی او په مددگار

اَنْصَارِهٖ وَاَشْيَاعِهٖ وَمُحِبِّيِهٖ وَاُمَّتِهٖ وَ

انو د هغوی او په پیروي کونکو د هغوی او په محبت کونکو د هغوی او په

عَلَيْنَا مَعَهُمْ اَجْمَعِينَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ ۝

امت د هغوی او په مونږه بانده سره د هغوی ټولو. اے د ټولو نه زیات رحم کونکېه

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عِدَّةَ

اے الله رحمت او لېرې په سردار زمونږ محمد بانده په شمار د هغه چا

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَصَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

چه درود ئے وربانده ليكلې دے اور رحمت او کړې په سردار زمونږه

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَ

محمد باندے پہ شمار دہفہ چاچہ درود نے نہ دے لیکلے پہ ہغوی باندے او

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَنَا

رحمت اولیرے پہ سردار زمونیر محمد باندے خنکہ چہ تا حکم کرے دے مونیرتہ

بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ كَمَا تُحِبُّ

پہ درود لیکلو پہ ہفہ باندے اور رحمت اولیرے پہ ہغوی باندے خنکہ چہ

أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

تہ خوبنومے درد لیرل پہ ہغوی باندے . اے اللہ رحمت اولیرے پہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سردار زمونیر محمد باندے او پہ آل د سردار زمونیر محمد باندے

كَمَا أَمَرْتَنَا أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ ۝

خنکہ چہ تا حکم کرے دے مونیرتہ چہ درود اولیرو پہ ہفہ باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ رحمت اولیرے پہ سردار زمونیر محمد باندے او پہ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ ۝

آل د سردار زمونیر محمد باندے خنکہ چہ ہفہ لائق د دے دے .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ رحمت او لیرے پہ سردار زمونیر محمد باندے او پہ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَاهُ

آل د سردار زمونیر محمد باندے خنکہ چہ تہ خوبنومے اور اضی کیرے ہرے

لَهُ ۝ اللَّهُمَّ يَا رَبَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دپارہ دہفہ . اے اللہ اے ربہ د سردار زمونیر محمد

وَآلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

او د آل د سردار زمونیر محمد رحمت او لیرے پہ سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ وَآلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَعْطِ

محمد باندے او پہ آل د سردار زمونیر محمد باندے او ور کرے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِالدَّرَجَةِ وَالْوَسِيلَةِ

زمونیر سردار محمد تہ درجہ او وسیلہ

فِي الْجَنَّةِ ۝ اَللّٰهُمَّ يَا رَبَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

به جنت کنی۔ اے اللہ! اے پروردگارہ د سردار زمونیر محمد

وَ اَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اِجْزِ سَيِّدَنَا

او ذ آل د سردار زمونیر محمد، بدله ور کرے سردار زمونیر

مُحَمَّدًا اَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم ته د کومے چه هغه

اَهْلُهُ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

لائق وی۔ اے اللہ رحمت او لیرے په سردار زمونیر محمد باندمے

وَ عَلٰى اَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَهْلِ

او په آل د سردار زمونیر محمد باندمے او په اهل بیتو

بَيْتِهِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

دهغوی۔ اے اللہ دردو او لیرے په سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

محمد باندمے او په آل د سردار زمونیر محمد باندمے او په

اَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَىٰ مِنْ

آل د سردار زمونیر محمد باندمے تردے پورے چه پاتے نشی

الصَّلٰوةِ شَيْءٌ ۝ وَاَرْحَمُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا

ذ درود نه هیخ شے۔ او رحم او کرے په سردار زمونیر محمد باندمے

وَ اَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَىٰ مِنْ

او په آل د سردار زمونیر محمد باندمے تردے پورے چه پاتے نشی

الرَّحْمَةِ شَيْءٌ ۝ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا

ذ رحمت نه هیخ شے۔ او برکت او لیرے په سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد باندمے او په آل د سردار زمونیر محمد باندمے

حَتَّى لَا يَبْقَىٰ مِنَ الْبَرَكَاتِ شَيْءٌ ۝ وَسَلِّمْ

تردے پورے چه پاتے نشی ذ برکت نه هیخ شے او سلام او لیرے

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اَلِ سَيِّدِنَا

په سردار زمونیر محمد باندمے او په آل د سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنَ السَّلَامِ شَيْءٌ ○

محمدؐ باندے تردے ہورے چہ ہاتے نشی د سلام نہ ہیخ شے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ سردار زمونیر محمدؐ باندے پہ

الْأَوَّلِينَ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اولنو کنے او رحمت او لیبرے پہ سردار زمونیر محمدؐ باندے

فِي الْآخِرِينَ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پہ آخرنو کنے او رحمت او لیبرے پہ سردار زمونیر محمدؐ باندے

فِي النَّبِيِّينَ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

پہ نبیانو کنے او رحمت او لیبرے پہ سردار زمونیر محمدؐ باندے

فِي الْمُرْسَلِينَ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

پہ رسولانو کنے او رحمت او لیبرے پہ سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ فِي لَمَلٍ أَعْلَى إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ○

محمدؐ باندے پہ فرشتو کنے ترورخ د جزا ہورے

اللَّهُمَّ اعُوْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اِلَى وَسِيْلَةٍ

اے اللہ! ورکھے زمونیر سردار محمدؐ تہ وسیلہ

وَالْفَضِيْلَةَ وَالشَّرَفَ وَالذَّرَجَةَ الْكَبِيْرَةَ

او فضیلت او بزرگی او لوبہ درجہ اے اللہ!

اللَّهُمَّ اِنِّيْ اٰمَنْتُ بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

بیشکہ ما ایمان واؤرے دے پہ سردار زمونیر محمدؐ باندے حالانکہ

لَمَّا رَأَتْهُ فَلَا تَحْرِمْنِيْ فِيْ لِحْنَانِ رُوْبَيْتَيْهِ

ماہغہ نہ دے لیدلے نوماحروم مہ کرے پہ جنت کنے دھغوی ذلیدلو نہ

وَارْتُقِنِيْ صُحْبَتَهُ وَتَوَقَّفِنِيْ عَلَى مِلَّتِهِ

اورا نصیب کرے ملکر تیا دھغوی او وفات مے کرے پہ ملت دھغہ

وَأَسْقِنِيْ مِنْ حَوْضِهِ مَشْرَبًا رَوِيًّا

اورا باندے اوسکوی دھغوی د حوض نہ سکل سیرابونکی

سَأِيْغًا هَيْئًا لَا نَظْمًا بَعْدَ اَبْدَانِكَ

دھری نہ تیریلونکی خوشگوار چہ مونیر تری نشو دھغہ نہ پس ہیجرے بیشکہ تہ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ اللَّهُمَّ أَيْلِغْ رُوحَ

پہ ہر خیز باندے قدرت لرونکے نے اے اللہ اور سوسے زمونیر دسردار محمد

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِنِّي تَجِيَّةً وَسَلَامًا ۝

روح ته خما د طرفه دعا او سلام

اللَّهُمَّ وَكَمَا أَمَنْتُ بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ او خنکھ چه ما ایمان راڑرے دے پہ سردار زمونیر محمد او

لَمَّارَةٌ فَلَا تَحْرِمْنِي فِي لِحْنَانِ رُؤْيَيْتَهُ

حال داچه لیدلے مے نہ دے پس مامحروم مه کرے پہ جنت کنیے دھغوی

اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَةَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ددیدارنہ اے اللہ قبول کرے شفاعت د سردار زمونیر محمد چه

الْكُبْرَىٰ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ الْعُلْيَا وَآتِهِ

لونه شفاعت دے او اوچتہ کرے دھغوی لوبہ درجه او ور کرے ورته

سُؤْلَهُ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ كَمَا أَتَيْتَ

مراد دھغوی پہ آخرت او پہ دنیا کنیے خنکھ چه تاور کرے دے

سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَسَيِّدِنَا مُوسَىٰ ۝ اللَّهُمَّ

زمونیر سردار ابراہیم ته او زمونیر سردار موسیٰ ته. اے اللہ

صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

رحمت اولیے پہ سردار زمونیر محمد باندے او پہ آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

دسردار زمونیر محمد باندے خنکھ چه تارحمت لیے دے پہ سردار زمونیر

إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَ

ابراہیم باندے او پہ آل دسردار زمونیر ابراہیم باندے او

بَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

برکت او لیے پہ سردار زمونیر محمد باندے او پہ آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

سردار زمونیر محمد باندے خنکھ چه تابرکت لیے دے پہ سردار زمونیر

إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ

ابراہیم باندے اور پہ آل دسردار زمونیر ابراہیم باندے بیشک ته

حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

دیرستائیلے شوے نے دبر رکھی خاوند نے۔ اے اللہ درود اولییرے او سلام

وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَ

او برکت پہ سردار زمونیر محمد باندے چه ستا نبی دے او ستا رسول

رَسُولِكَ ۝ وَسَيِّدِنَا اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلِكَ

دے۔ او پہ سردار زمونیر ابراهیم باندے چه ستا خلیل دے او ستا

وَصَفِيْحِكَ وَسَيِّدِنَا مُوسٰى كَلِيْمِكَ وَ

خوبش کرے شوے دے او پہ سردار زمونیر موسیٰ باندے چه ستا کلیم دے او

نَجِيْحِكَ ۝ وَسَيِّدِنَا عِيْسٰى رُوْحِكَ وَ

ستا همراز دے، او پہ سردار زمونیر عیسیٰ باندے چه ستا روح دے او

كَلِمَتِكَ وَعَلٰى جَمِيْعِ مَلٰئِكَتِكَ وَرُسُلِكَ

ستا کلمہ ده، او پہ تولو ملائکو ستا او پہ رسولا نو ستا

وَ اَنْبِيَايِكَ وَ خَيْرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَ

او پہ نبیانو ستا او پہ غوره گسانو د مخلوق ستا او پہ

اَصْفِيَايِكَ وَ خَاصَّتِكَ وَ اَوْلِيَايِكَ مِنْ

خوبش کرے شوو ستا او پہ خاصا نو ستا او پہ دو ستانو ستا کوم چه

اَهْلِ اَرْضِكَ وَ سَمٰوٰتِكَ ۝ وَ صَلَّى اللّٰهُ

او سیدونکی دی ستا دزمکے او ستا د آسمان، او رحمت د اللہ دوی

عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ خَلْقِهِ وَ حَسْبًا

پہ سردار زمونیر، محمد باندے پہ شمیر دمخلوق دهغه او پہ رضا کیدلو

نَفْسِهِ وَ زِيْنَةَ عَرْشِهِ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ وَ

ذات دهغه، او پہ وزن دعرش دهغه او پہ مقدار دسیاهی دکلمو دهغه

كَمَا هُوَ اَهْلُهُ وَ كَلِمًا ذَكَرَهُ الذُّكْرُوْنَ

او خنکے چه هغه لائق د دے دے، او کله چه یا ذوی نے یا ذونکی

وَ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهٖ الْغَافِلُوْنَ وَعَلٰى اَهْلِ

او کله چه غفلت کوی د ذکر دهغه نه غفلت کونکی او پہ اهل بیو

بَيْتِهٖ وَ عِثْرَتِهٖ الطَّاهِرِيْنَ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا

دهغوی باندے او پہ اولاد دهغوی چه پاکان دی او سلام برے اولییرے دیر دیر۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ارحمت او ليرى زمونير په سردار محمد باندي او په

ازواجه و ذريته و على جميع النبيين

بييانو دهغه او په اولاد دهغه او په ټولو نبيانو

و المرسلين و الملائكة و المقربين و

او رسولانو او په ملائكو او په مقربينو او دالله

جميع عباد الله الصالحين عدد ما أمطرت

په ټولو نيكانو بندگانو په شمار دهغه شاخكو چه ورولي دي

السماء منذ بنيتها و صل على سيدنا

اسمان كله نه چه تادم پيدا كړم دى اورحمت اوليرى په سردار زمونير

محمد عدد ما أنبتت الأرض منذ

محمد باندي په شمار دهغه شينكو چه زرغون كړي دي زمكه ذكله راسه

دخوتها و صل على سيدنا محمد عدد

چه تا داغور ولى ده اورحمت اوليرى په سردار زمونير محمد باندي

النجوم في السماء فانك أحصيتها و

په شمار دهغه ستورو چه په آسمان كنى دي خكه چه تادا شمارلي دي او

صل على سيدنا محمد عدد ما تنفست

رحمت اوليرى په سردار زمونير محمد باندي په شمار دهغه چه ساكله اخلي

الأسرار منذ خلقتها و صل على

ټول ساه لرونكي چه كله راسه تادا پيدا كړي دي اورحمت اوليرى په

سيدنا محمد عدد ما خلقت وما

سردار زمونير محمد باندي په شمار دهغه مخلوق چه تا پيدا كړم دى او هغه

تخلق وما أحاط به علمك و أضعاف

چه ته به نه پيدا كړم او هغه چه چا پيره دى ورباندي علم ستاو دوچند

ذلك اللهم صل عليهم عدد خلقك

ددم ارحمت اوليرى په هغوى باندي په شمار دمخلوق خپل

ورضاء نفسك و زينة عرشك و مداد

اوپه رضا كيدلو دذات خپل او په وزن دعرش خپل او په مقدار د سياهي

كَلِمَاتِكَ وَمَبْلَغَ عِلْمِكَ وَآيَاتِكَ ○

دکلمتو سٽا او په انداز ۷ د علم سٽا او دنښو سٽا.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَوةً تَفُوقُ وَ

اے الله رحمت او ليرے په هغوی داسے رحمت چه او جت او

تَفْضُلُ صَلَوةِ الْمُصَلِّينَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْخَلْقِ

غوره وي د درود ليکونکو درود نه په هغوی باندے د ټول

أَجْمَعِينَ كَفَضْلِكَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ ○

مخلوق نه څنگه چه سٽا فضيلت دے په ټول مخلوق سٽا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ صَلَوةً دَائِمَةً مُسْتَمِرَّةً

اے الله رحمت او ليرے په هغوی باندے داسے رحمت چه همیشه وي او

الدَّوَامَ عَلَى مَرِّ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ مُتَّصِلَةً

جاري اوسي څومره پورے چه همیشه او جاري دي شپه او ورځے متصل وي

الدَّوَامَ لَا انْقِصَاءَ لَهَا وَلَا انْصِرَامَ عَلَى

همیشه والي سره چه نه ئے پوره والے وي او نه ئے پر يکيدل وي په

مَرِّ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ عَدَّةً كُلِّ وَابِلٍ وَكُلِّ

جاري والي د شپو او د ورځو په شمار دهر باران او د پرنے اے الله

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَسَيِّدِنَا

رحمت او ليرے په سردار زموږ محمد باندے چه ستاني دے او په سردار زموږ نبي

أَبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ وَعَلَى جَمِيعِ أَنْبِيَائِكَ وَأَصْفِيَاءِكَ

ابراهيم چه سٽا خليل دے او په ټولو پيغمبرانو خپلو او خاصانو خپلو

مِنْ أَهْلِ أَرْضِكَ وَسَمَاوَاتِكَ عَدَّةً خَلْقِكَ

سٽا د زمکے او سٽا د آسمان او سٽا د نځو نه په شمار د مخلوق سٽا

وَرِضَاءِ نَفْسِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَوِثْقَانَ

او په رضامندي د ذات سٽا او په وزن د عرش سٽا او په سپاهي

كَلِمَاتِكَ وَمُنْتَهَى عِلْمِكَ وَزِنَةَ جَمِيعِ

دکلمتو سٽا او په منتهي د علم سٽا او په وزن د ټولو

مَخْلُوقَاتِكَ صَلَوةً مُكْرَرَةً أَبَدًا عَدَدَ مَا

مخلوقانو سٽا داسے رحمت چه پرله پسے وي همیشه په شمار د هغے چه

أَحْضِرْ عِلْمَكَ وَمِلَّءْ مَا أَحْضَرْتَهُ لَكَ

کیر کړي دي علم ستا او په ذکر کوالي دهغه چه کیر کړي دي علم ستا

وَأَضْعَافَ مَا أَحْضَرْتَهُ لَكَ صَلَاةً تَزِيدُ

اوپه دو چند دهغه چه کیر کړي دي علم ستا داسه رحمت چه زیات وي

وَتَفَوُّقُ وَتَفْضُلُ صَلَاةِ الْمُصَلِّينَ عَلَيْهِمْ

اوپورته وي اوزیات شوم وي په درود د درود دویونکو په هغوی باندی

مِنَ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ كَفَضْلِكَ عَلَى

د ټولو مخلوقاتو نه څنگه چه ستا او چتوالی دے په

جَمِيعِ خَلْقِكَ ثُمَّ تَدْعُوا بِهَذَا الدُّعَاءِ

ټول مخلوق ستا. بیا ته او غواړه دے دعا لره

فَأِنَّهُ مَرْجُوُّ الْإِجَابَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

څکه چه دهغه د قبول کوالی امید کیدل شي کچرے او غواړي الله تعالی

بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

پس د درود لیر لونه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندی

وَسَلَّمَ ۝ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ لَزِمَ مِلَّةَ

اے الله او کړخوے ما دهغه چا نه چه لازم نے نیولے دے ملت

نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

د نبی ستا چه زمونږه سردار محمد صلی الله علیه وسلم دے او اوچته

وَسَلَّمَ وَعَظَّمَ حُرْمَتَهُ وَأَعَزَّ كَلِمَتَهُ وَ

نے لرلے ده مرتبه دهغوی او عزتمندہ نے لرلے ده کلمه دهغوی او خیال

حَفِظَ عَهْدَهُ وَذِمَّتَهُ وَنَصَرَ حَزْبَهُ وَ

نے ساتلے دے دلوظا دهغوی او دوعلمے دهغوی او امداد نے کړے دے ددلے

دَعْوَتَهُ وَكَثَّرَ تَابِعِيهِ وَفَرَّقَتَهُ وَوَاتَى

دهغوی او دعوت دهغوی اوزیات کړي نے دي پیروي کونکي دهغوی

زَمْرَتَهُ وَلَمْ يُخَالَفْ سَبِيلَهُ وَسُنَّتَهُ ۝

اوپوره کړے نے ده ډله دهغوی او مخالفت نے نه دے کړے دهغوی دلارے او

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْإِسْتِسْقَاءَ بِسُنَّتِهِ

طریقے نه اے الله زه سوال کومه تانه دمنگلو لگولو نه په طریقے دهغوی

وَاعُوذُ بِكَ مِنَ الْاِنْجِرَافِ عَمَّا جَاءَ

او پناه غوارم پنا سره چه واژرم دهغه خه نه کوم چه هغوی راوړي

بِهِ ۰ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا

دي. اے الله زه سوال کوم تانه دهغه بهتر دخیزونو کوم چه

سَأَلْتُكَ مِنْهُ سَيِّدُ نَا مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ وَ

غوبنتي دي تانه سردار زمونږ محمد چه ستاني دے او ستا

رَسُولِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعُوذُ بِكَ

رسول دے صلي الله عليه وسلم او پناه غوارم پنا سره

مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ سَيِّدُ نَا مُحَمَّدٌ

دشره دهغه بدی نه چه ستاپناه غوبنتي ده دهغه نه سردار زمونږ محمد

نَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۰

چه ستا نبي او رسول دے صلي الله عليه وسلم.

اَللّٰهُمَّ اَعِصِمْنِيْ مِنْ شَرِّ الْفِتَنِ وَعَاقِبَتِي

اے الله بچ کرے ما دفتنو دشرنه او محفوظ مے او لرے

مِنْ جَمِيعِ الْبَحْنِ وَاَصْلِحْ مِنِّيْ مَا ظَهَرَ

دټولو محتنونونه او درست کرے خمانه کوم چه ظاهر دي

وَمَا بَطَّنَ وَتَقِّ قَلْبِيْ مِنَ الْحِقْدِ وَالْحَسَدِ

او کوم چه پټ دي او پاک کرے زړه خماد کينه نه او د حسد نه

وَلَا تَجْعَلْ عَلَيَّ تَبَاعَةَ لِاَحَدٍ ۰ اَللّٰهُمَّ

اومه اچوم په ما باندے تاوان دهيجا. اے الله

اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْاِخْتِاَافَ بِاِحْسَنِ مَا تَعْلَمُ

زه سوال کوم تا نه دتوفيق دهغه بهتر والي چه تا ته معلوم دے

وَالْتَّرِكَ لِسَيِّئِ مَا تَعْلَمُ وَاَسْئَلُكَ التَّكْفُلَ

او دپريبنودلو دهغه بدو کومے چه تا ته معلوم دے دي او غوارم تانه بهر وسه

بِالرِّزْقِ وَالرُّهْدِ فِي الْكِفَافِ وَالْمَخْرَجَ بِالْبَيَانِ

په رزق سره او زهد په خرچ کولو کينه او وتل په ظاهر بدلو

مِنْ كُلِّ شُبْهَةٍ وَاَقْلَحَ بِالصَّوَابِ فِي كُلِّ

دهرے شهبے نه او فتح مندي په حق امرسره په هر

حُجَّةٍ وَالْعَدْلَ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَاءِ

حجت كنى او عدل په غصه او په رضا كنى

وَالسَّلِيمَ لِمَا يَجْرِي بِهِ الْقَضَاءُ وَالْاِقْتِصَادَ

او قبول دهنه چه جاري شوه دى ورباندې حكم ستا او ميانه روي

فِي لِقْفَرٍ وَالْغِنَى وَالْتَوَاضَعُ فِي الْقَوْلِ الْفِعْلُ

په غريبي او مالداري كنى او عاجزي كول په قول او فعل كنى

وَالصِّدْقَ فِي الْجِدِّ وَالْهَزْلِ ۝ اَللّٰهُمَّ

او درست والى (ريشتوالى) په سمه خنده او په توفه كنى. اى الله بيشكه

اِنَّ لِيْ ذُنُوْبًا فِيمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ وَذُنُوْبًا

خماخه گناهونه دي كوم چه خما او ستا تر مينځه دي او خه گناهونه دي

فِيمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَلْقِكَ ۝ اَللّٰهُمَّ مَا

كوم چه خما او ستا د مخلوق تر مينځه دي. اى الله كوم

كَانَ لَكَ مِنْهَا فَاعْفِرْهُ وَمَا كَانَ مِنْهَا

گناهونه چه راته ستا شوي دي نو هغه راته او بخښه او كوم چه راته شوي دي

لِخَلْقِكَ فَتَحَمَّلْهُ عَنِّيْ وَاعْنِنِيْ بِفَضْلِكَ

ستاد مخلوق نو پورته نه كړه خمانه. اوى پرواه مې كړه په خپل فضل سره

اِنَّكَ وَاَسِعُ الْمَغْفِرَةَ ۝ اَللّٰهُمَّ تَوَرَّ بِالْعِلْمِ

بيشكه ته دلونه مغفرت والاى. اى الله روښانه كړه په علم سره

قَلْبِيْ ۝ وَاسْتَعْمَلْ بِطَاعَتِكَ بَدَنِيْ ۝

زړه خما او استعمال كړه په طاعت خپل كنى بدن خما

وَخَلِّصْ مِنْ الْفِتَنِ سِرِّيْ ۝ وَاشْغَلْ

او خلاص كړه د فتنونه باطن خما او مشغول كړه په

بِالْاِعْتِبَارِ فِكْرِيْ ۝ وَرَقْنِيْ شَرَّ وَاَوْس

عبرت سره فكر خما او ما اوسا ته دوسوسو

الشَّيْطَانِ ۝ وَاجْرِنِيْ مِنْهُ يَا رَحْمٰنُ

د شيطان نه او پناه را كړه دهغه نه اى ډير مهربانه

حَتّٰى لَا يَكُوْنُ لَهٗ عَلَيَّ سُلْطٰنٌ ۝

تر دې پورې چه او نشي هغه لره غلبه په ما باندې

الْحَزْبُ الثَّانِي فِي يَوْمِ الثَّلَاثَاءِ
دویم حزب ذہبی دورخ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَ

اے اللہ زہ غوارم تا نہ ہغہ خیرونہ چہ تا تہ معلوم دی او

أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ

پناہ غوارم پتاسرہ دہغہ شرونونہ چہ تا تہ معلوم دی او تانہ بخنبہ غوارم

مِنْ كُلِّ مَا تَعْلَمُ إِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا تَعْلَمُ

دہرے ہغہ گناہ چہ تا تہ معلومہ دہ بیشکہ تہ پوہیرے او مونیر نہ پوہیرو

وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي

اوتہ ڈیر پوہیدونکے نی پہ غیبو باندمے اے اللہ او ساتے ما

مِنْ رَفَاتِي هَذَا وَإِحْدَاقِ لِقَاتِي وَتَطَاوُلِ

ددمے زمانے نہ او ذرا کبیرولو د فتنونہ او د ظلم کولو

أَهْلِ الْجُرَاةِ عَلَيَّ وَأَسْتِضَعُ فِيهِمْ إِيَّايَ

دزبرہ ورائونہ پہ ما باندمے او د کمزوری گنبرلو دہغوی مالرہ

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْكَ فِي عِيَاذِ مَنِيْعٍ وَ

اے اللہ او کمر خومے مادخبل طرف نہ پہ مضبوطہ پناہ کنہے او پہ مضبوط

حَرِيْرٍ حَصِيْنٍ مِّنْ جَمِيْعِ خَلْقِكَ حَتَّىٰ

قلعہ کنہے دتبول مخلوق خبل نہ تردمے پورے چہ راؤزشومے راتہ مرگ

تُبَلِّغَنِي أَجَلِي مُعَافِيًا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ

پہ دمے حال کنہے چہ عافیت راکرے شومے وی اے اللہ رحمت او لبرے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سردار زومونیر محمد باندمے او پہ آل دسردار زومونیر محمد باندمے پہ شمار

عَدَدٍ مِّنْ صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَصَلَّىٰ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

دہغہ چاچہ درود نے لیکلے دمے پہ ہغوی باندمے اور حمت اولبرے

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدِ

زومونیر پہ سردار محمد باندمے او پہ آل دسردار زومونیر محمد باندمے پہ شمار دہغہ

مَنْ لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلَّىٰ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

چاچہ درود نے نہ دمے لیکلے پہ ہغوی باندمے اور حمت اولبرے زومونیر

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

به سردار محمد باندے او په آل د سردار زمونیر محمد باندے څنگه چه

تَتَّبِعِي الصَّلَاةَ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

لا تقي دي رحمت ليكل په هغوی باندے او رحمت اوليرے په سردار زمونير

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

محمد باندے او په آل د سردار زمونير محمد باندے څنگه دے

تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

واجب دي درود ليرل په هغوی باندے او درود اوليرے په سردار زمونير

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

محمد باندے او په آل د سردار زمونير محمد باندے څنگه چه

أَمْرٌ أَنْ يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَىٰ

ت احکم کرے دے ددرود ليکلو په هغوی باندے او رحمت اوليرے په

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سردار زمونير محمد باندے او په آل د سردار زمونير محمد باندے

الَّذِي نُورُهُ مِنْ نُورِ الْأَنْوَارِ وَأَشْرَقَ

هغه هستي چه نور دهغوی اصل دتولو نورو نودے او روښانه شول

بِشُعَاعِ سِرِّهِ الْأَسْرَارِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

سره د خليدو دراز دهغوی تولى رازونه اے الله رحمت اوليرے

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

په سردار زمونير محمد باندے او په آل د سردار زمونير

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ الْأَبْرَارِ

محمد باندے او په اهل بيتو دهغوی نيکوکارانو

اجْمَعِينَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

تولو باندے اے الله رحمت اوليرے په سردار زمونير

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ إِلِهِم بِحَرَائِرِكَ وَمَعْدِنِ

محمد باندے او په آل دهغوی کوم چه درياب دے دانوارو ستا او کان دے

أَسْرَارِكَ وَلِسَانِ مَجَّتِكَ وَعُرْوَسِ

درازونو ستا او زبه ده د حجت ستا او خلعي

مَمْلُكَتِكَ وَإِمَامَ حَضْرَتِكَ وَخَاتِمَ

د مملکت ستا او امام د دربار ستا او ختمونکے د نبیانو ستا

أَنْبِيَائِكَ صَلَوَةٌ تَدُومُ يَدًا وَإِمَامًا وَ

داسے رحمت چه همیشه وی به همیشه والی ستا او باقی پاتے شی

تَبْقَى بِبَقَائِكَ صَلَوَةٌ تُرْضِيكَ وَتُرْضِيهِ

سره دباقی والی ستا داسے رحمت چه راضی کری تالره اوراضی کرے ته

وَتُرْضِي بِهَا عَنَّا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ○

هغه لره او ته راضی شه په هغه سره زمونږ نه اے د جهان پالونکیه

اللَّهُمَّ رَبَّ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ وَرَبَّ

اے الله پروردگار د حجل او د حرم او پروردگار

الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَرَبَّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ

د مشعر حرام (مزدلفه) او پروردگار د حرمت والا کور

وَرَبَّ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ أَيْلِغَ لِسَيِّدِنَا

او پروردگار د رکن او مقام ابراهیم او رسوم زمونږ سردار

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّنَّا السَّلَامِ ○ اللَّهُمَّ

او زمونږ مولا محمد ته زمونږ د طرفه سلام. اے الله

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ

رحمت اولیرے زمونږ په سردار او مولا محمد باندے چه سردار دے

الْأُولَى وَالْآخِرِينَ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ

دمخکو او روستنو خلقو. اے الله رحمت او لیرے

عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي كُلِّ

زمونږ په سردار او مولا محمد باندے په هر یو

وَقْتٍ وَحِينٍ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

وخت او زمانه کنیے. اے الله رحمت او لیرے زمونږ آسردار

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فِي الْمَلَا أَعْلَى إِلَى

او زمونږ په مولا محمد باندے په ډله داوچو فرشتو کنیے تر

يَوْمِ الدِّينِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ورځ د بدله پورے. اے الله رحمت او لیرے زمونږ په سردار

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ حَتَّى تَرِثَ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ○

او زموڼر مولا محمد باندے تردے پورے چه وارث شے ته دزمکے او

هغه څه چه ددغے د پاسه دي او ته بهتر نے په ټولو وارثانو کنه

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَرْمِيِّ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

اے الله رحمت اولیرے زموڼر په سردار محمد باندے چه نبي دے

نالوستے دے او په آل د سردار زموڼر محمد باندے څنگه چه

صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ

تا رحمت لیرے دے زموڼر په سردار ابراهیم باندے بیشکه ته

حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ○ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

ستائیلے شونے دلوین خاوند نے او برکت او لیرے په سردار زموڼر

مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَرْمِيِّ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى

محمد باندے چه نبي دے نالوستے څنگه چه تا برکت لیکلے دے په

محمد باندے چه نبي دے نالوستے څنگه چه تا برکت لیکلے دے په

سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ○

سردار زموڼر ابراهیم باندے بیشکه ستائیلے شونے دلوین خاوند نے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے الله رحمت اولیرے په سردار زموڼر محمد باندے او په آل د سردار

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ

زموڼر محمد باندے په شمار دهغه چه گهيره اچولے ده په هغه باندے

عِلْمِكَ وَجَرَى بِهِ قَلَمُكَ وَسَبَقَتْ

علم ستا او جاري شونے دے ورباندے قلم ستا او ورباندے شونے ده

بِهِ مَشِيئَتُكَ وَصَلَّتْ عَلَيْهِ مَلَائِكَتُكَ

در باندے اراده ستا او چه درود لیکلے ورباندے ملائکو ستا داسے

صَلَاةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِكَ بِأَقْبَى بِفَضْلِكَ

رحمت چه همیشه وي سره دهمیشه والي ستا باقي وي په فضل ستا

وَإِحْسَانِكَ إِلَى أَبَدٍ أَبَدًا ○

او په احسان ستا تر همیشه همیشه پورے چه نه وي

او په احسان ستا تر همیشه همیشه پورے چه نه وي

نَهَايَةَ لَا بَدِيَّتِهِمْ وَلَا فَنَاءَ لِدَيْهِمْ وَمُؤَمِّتِهِمْ

انتہاد ہمیشہ والی دھغے اونہ وی فنا کیدل دھغے دہمیشہ والی دبارہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ رحمت اولیہے پہ سردار زمونیر محمد باندمے او پہ آل د سردار

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ

زمونیر محمد باندمے پہ شمار دھغہ چہ گھیرہ اجولے پہ ہغے باندمے

عِلْمِكَ وَأَحْصَاهُ كِتَابُكَ وَشَهِدَتْ

علم ستا او ضبط کبری دی کتاب ستا او گواہی ور کھے دہ پہ

بِهِ مَلَائِكَتُكَ وَأَرْضٌ عَنْ أَصْحَابِهِ

ہغہ سرہ ملائکو ستا او راضی شے دھغوی دا صحابونہ اورحم

وَأَرْحَمَ أُمَّتَهُ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ

او کرے دھغوی پہ امت باندمے بیشکہ تہ دیر ستانیلے شومے نے د بزرگی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

والانی اے اللہ رحمت اولیہے پہ سردار زمونیر محمد باندمے او پہ

أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى جَمِيعِ أَصْحَابِ

آل د سردار زمونیر محمد باندمے او پہ تولو اصحابو

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۞ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

د سردار زمونیر محمد باندمے اے اللہ رحمت اولیہے پہ سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

محمد باندمے او پہ آل و سردار زمونیر محمد باندمے خنکہ چہ

صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ

تا رحمت لیکلے دے زمونیر پہ سردار ابراہیم باندمے برکت او لیہے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا

پہ سردار زمونیر محمد باندمے او پہ آل د سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ

محمد باندمے خنکہ چہ تا برکت لیکلے دے پہ سردار زمونیر ابراہیم باندمے

وَعَلَى أَلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ

او پہ آل د سردار زمونیر ابراہیم باندمے پہ عالمونو کنہے

إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ بِخُشُوعٍ

بیشکھ تہ ذہیر ستانلیے شوے دلویں خاوند نے۔ اے اللہ بہ عاجزی

الْقَلْبِ عِنْدَ السُّجُودِ لَكَ يَا سَيِّدِي

دزہ سرہ تا تہ دسجدو کولو وخت کنیے اے خما سردارہ

بِغَيْرِ دَانْكَارَنَهٗ يَا اللَّهُ يَا جَلِيلُ فَلَا

بغیر دانکارنہ او ستا بہ مدد سرہ اے اللہ اے لویں والا پس ہیخ یو

شَيْءٌ يَدَايْنِكَ فِي غَلِيظِ الْعَهْودِ وَيَكْرِسِيكَ

غیز نہ نزدیے کیری ستا مضبوط لوظونوتہ او بہ کرسی ستا

الْمُكَلَّلِ بِالنُّورِ إِلَى عَرْشِكَ الْعَظِيمِ الْمَجِيدِ

کومہ چہ جہراؤ شوے دہ بہ نور سرہ عرش عظیم او جت تہ۔ او بہ

وَمَا كَانَ تَحْتَ عَرْشِكَ حَقًّا قَبْلَ أَنْ

وسیلہ دہفہ غیز چہ ستا دعرش لاندے دے بہ رشتیا سرہ مخکنیے ددے

تَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَصَوْتِ الرَّعْدِ لَكَ إِذْ

نہ چہ پیدا ذکرل اسمانو نہ او بہ آواز د غور خو سرہ تا دہارہ چہ

كُنْتَ مِثْلَ مَا لَمْ تَزَلْ قَطُّ الِهَاءُ عَرَفْتَ

تہ وے او مثل دنہ وو ہمیشہ ہیخوک معبود پیژندے شوے نے تہ

بِالتَّوْحِيدِ فَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُحِبِّينَ

سرہ د توحید نہ پس کرے ما دوستی کولو والا

الْمَحْبُوبِينَ الْمُقَرَّبِينَ الْعَارِفِينَ الْعَاشِقِينَ

او دوست کرے شوژنہ د نزدیکیانہ دعارفانہ د عاشقانہ

لَكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ

تا د بارہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ

يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا دُودٌ ۝ اللَّهُمَّ

اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے مینہ کونکیہ اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

رحمت اولیرے زمونیرہ سردار او مولیٰ محمد باندمے بہ شمار دہفہ

مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

چہ چاپیرہ شوے دے بہ ہفے باندمے علم ستا۔ اے اللہ رحمت او لیرے

عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا أَحْصَاهُ

په سردار زمونیر محمد بانده او په مولی زمونیر محمد بانده په شمار دهغه

كِتَابِكَ ۞ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَ

چه ضبط کره دے هغه لره کتاب ستا. اے الله رحمت او لیرے په سردار

مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا نَفَذْتَ بِهِ

زمونیر او په مولی زمونیر محمد بانده په شمار دهغه چه جاری شوه دے

قُدْرَتِكَ ۞ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَ

وربانده قدرت ستا. اے الله رحمت او لیرے په سردار زمونیر او

مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَصَّصْتَهُ

په مولی زمونیر محمد بانده په شمار دهغه چه خاص کره دے هغه لره

إِرَادَتِكَ ۞ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اراده ستا. اے الله رحمت او لیرے په سردار زمونیر او په

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا تَوَجَّهَ إِلَيْهِ

مولی زمونیر محمد بانده په شمار دهغه چه متوجه شوید هغه ته

أَمْرِكَ وَتَهْنِئِكَ ۞ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

امر ستا او تهني ستا. اے الله رحمت او لیرے په سردار زمونیر او مولی

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا وَسَّعَهُ سَمْعُكَ ۞

زمونیر محمد بانده په شمار دهغه چه فراخواله کره دے وربانده اور بدلوستا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

ستا اے الله رحمت او لیرے په سردار زمونیر او په مولی زمونیر محمد بانده

عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ بَصَرُكَ ۞ اللَّهُمَّ

په شمار دهغه چه احاطه کره ده وربانده لیدلوستا اے الله رحمت

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا

نازل کره په سردار زمونیر او په مولی زمونیر محمد بانده په شمار دهغه

ذَكَرَهُ الذُّكْرُونَ ۞ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

چه یاد کره دے هغه لره یادونکو. اے الله رحمت نازل کره په سردار

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا غَفَلَ عَنِ

زمونیر او په مولی زمونیر محمد بانده په شمار دهغه چه غافل شوي دي دهغه

ذَكَرَهُ الْغُفْلُونَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

دذکر نہ غفلت کونکی. اے اللہ رحمت اولیہیے زمونیر پہ سردار

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ قَطْرِ الْأَمْطَارِ ۝

او مولیٰ محمدؐ باندے پہ شمار دشاخکو د بارا نونو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ رحمت او لیہیے زمونیر پہ سردار او مولا محمدؐ باندے

عَدَدَ أَوْرَاقِ الْأَشْجَارِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

ڈاونو د پانوپہ شمار. اے اللہ رحمت او لیہیے زمونیر پہ

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ دَوَابِّ الْفَقَارِ ۝

سردار او مولا محمدؐ باندے دخنگل دخناورو پہ شمار

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ رحمت او لیہیے زمونیر پہ سردار او مولا محمدؐ باندے

عَدَدَ دَوَابِّ الْبِحَارِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

د دریاب دخناورو پہ شمار. اے اللہ رحمت او لیہیے زمونیر پہ

سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مِيَاهِ الْبِحَارِ ۝

سردار او مولا محمدؐ باندے د دریابونو د اوبو پہ شمار اے اللہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

رحمت او لیہیے زمونیر پہ سردار او مولا محمدؐ باندے پہ شمار

عَدَدَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَضَاءَ عَلَيْهِ

دھغہ خیزونوچہ شبے ورباندے تیارہ کرے دہ اوخلیدلے دہ ورباندے

النَّهَارِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

ورخ. اے اللہ رحمت او لیہیے زمونیر پہ سردار او مولا

مُحَمَّدٍ بِالْغَدُوِّ وَالْأَصَالِ ۝ اللَّهُمَّ

محمدؐ باندے صبا او بیگاہ. اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

رحمت او لیہیے زمونیر پہ سردار او مولا محمدؐ باندے پہ شمار

الرِّمَالِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَ

دشکو(دذرو) اے اللہ رحمت او لیہیے زمونیر پہ سردار او

مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ

مولا محمد باندے پہ شمار د بنحو او د سرو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ رحمت او لہجے زمونیر پہ سردار او مولا محمد باندے

رِضَاءَ نَفْسِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

پہ اندازہ درضاد ذات ستا. اے اللہ رحمت اولہجے زمونیر پہ سردار

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَدَادَ كَلِمَاتِكَ

او مولا محمد باندے پہ اندازہ د سیاہی د کلماتو ستا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ رحمت او لہجے زمونیر پہ سردار او مولا محمد باندے

مِلَّ سَمَوَاتِكَ وَأَرْضِكَ اللَّهُمَّ

پہ د کوالی د آسمانونو او د زمکے ستا. اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ زِينَةً

رحمت او لہجے زمونیر پہ سردار او مولا محمد باندے پہ وزن

عَرْشِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَ

د عرش ستا. اے اللہ رحمت او لہجے زمونیر پہ سردار او

مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَخْلُوقَاتِكَ اللَّهُمَّ

مولا محمد باندے پہ شمار د مخلوقا تو ستا. اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ

رحمت او لہجے زمونیر پہ سردار او مولا محمد باندے غوره

صَلَوَاتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّ الرَّحْمَةِ

رحمتو نہ خپل. اے اللہ رحمت او لہجے د رحمت والا پیغمبر باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى شَفِيعِ الْأُمَّةِ اللَّهُمَّ

اے اللہ رحمت اولہجے زمونیر دامت پہ شفاعت کونکي باندے اے اللہ

صَلِّ عَلَى كَاشِفِ الْغَمِّ اللَّهُمَّ صَلِّ

رحمت او لہجے د تکلیفونو لے کونکي باندے. اے اللہ رحمت

عَلَى مُجِبِّ الظُّلْمَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

او لہجے پہ رنرا کونکي د تیارے باندے. اے اللہ رحمت او لہجے پہ

مَوْلَى التَّعَمَّةِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَوْلَى

صاحب ذنعت باندے۔ اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب ذ

الرَّحْمَةِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ

رحمت باندے۔ اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب دھغہ حوض

الْحَوْضِ لَمُرُودٍ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

چہ تہول اُمت بہ پرے تیریری۔ اے اللہ رحمت او لیبرے پہ

صَاحِبِ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ

صاحب ذ مقام محمود باندے۔ اے اللہ رحمت او لیبرے

عَلَى صَاحِبِ الْوَأْدِ الْمَعْقُودِ ○ اللَّهُمَّ

پہ صاحب ذ جنلمے ودرولے شومے باندے۔ اے اللہ رحمت

صَلِّ عَلَى صَاحِبِ لِمَكَانِ الْمَشْهُودِ ○

اولیبرے پہ صاحب ذ مکان چہ ورتہ حاضر کرے شومے ووهغہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمَوْصُوفِ بِالْكَرَمِ

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ ہغہ ذات چہ موصوف شویدے پہ کرم

وَالْجُودِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ هُوَ فِي

اوسخاوت سرہ۔ اے اللہ رحمت او لیبرے پہ ہغہ ہستی باندے چہ ہغہ پہ

السَّمَاءِ سَيِّدُ نَا مُحَمَّدٍ وَفِي الْأَرْضِ

اسمان کنبے زمونیر سردار محمود دے۔ او پہ زمکہ کنبے زمونیر

سَيِّدُ نَا مُحَمَّدٍ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ

سردار محمد دے۔ اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب ذمہر نبوت

الشَّامَةِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْعِلْمَةِ

باندے۔ اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب ذ نخبے باندے اے اللہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمَوْصُوفِ بِالْكَرَامَةِ ○

رحمت او لیبرے پہ ہغہ ذات چہ موصوف شومے دے پہ بزرگی سرہ اے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمَخْصُوفِ بِالرَّعَامَةِ ○

اللہ رحمت او لیبرے پہ ہغہ ذات چہ خاص کرے شویدے پہ سرداری سرہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ كَانَ تَظْلُهُ الْعِمَامَةُ ○

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ ہغہ ذات چہ سورے بہ ورباندے کولو ورنخ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ كَانَ يَرَى مَنْ
اے اللہ رحمت او لیبرے پہ ہفتہ ذات چہ لیدل بہ نے ہفتہ شوک چہ ترینہ بہ

خَلْفَهُ كَمَا يَرَى مَنْ أَمَامَهُ ○ اللَّهُمَّ
روستوو و خنگہ چہ بہ برز لیدل ہفتہ شوک چہ ترینہ مخکنے بہ ووائے اللہ رحمت

صَلِّ عَلَى الشَّفِيعِ الْمَشْفُوعِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ○
اولیبرے پہ شفاعت کونکی او شفاعت قبول کرے شوی باندرے پہ ورخ دقیامت

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الصَّرَاةِ ○
اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب دعا جز والی اوزاری باندرے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الشَّفَلَةِ ○
اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب ذ شفاعت باندرے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ لَوْسِيْلَةِ ○
اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب ذ وسیلے باندرے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ لَفْضِيْلَةِ ○
اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب دفضیلے باندرے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ ○
اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب داوجے مرتبے والا باندرے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ لَهْرَاوَةِ ○
اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب دھمسا باندرے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ التَّعْلِيْنِ ○
اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب ذ نعلینو باندرے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْحُجَّةِ ○
اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب دحجت باندرے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ لُبْرُهَانِ ○
اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب ددلیل باندرے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ السُّلْطَانِ ○
اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب ذ غلبے باندرے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ التَّاجِ ○
اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب ذ تاج باندرے



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ بَكَى

لمعام. اے اللہ رحمت او لیبرے پہ ہفہ چاچہ ڈرلی وو

إِلَيْهِ الْجَدْعُ وَحَنُّ لِفِرَاقِهِ ○ اللَّهُمَّ

ہفہ تہ د کجورے تنے او ڈرائے کرے دہ پہ فراق دہفہ. اے اللہ

صَلِّ عَلَى مَنْ تَوَسَّلَ بِهِ طَيْرُ الْفَلَاقَةِ ○

رحمت او لیبرے پہ ہفہ چاچہ وسیلہ نیولے دہ پہ ہفہ سرہ دخنکل مارغانو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ سَبَّحَتْ فِي كَفِّهِ

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ ہفہ چاچہ تسبیح ویلے وہ پہ ورغوی دہفہ

الْحِصَاةُ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ تَشَفَّعَ

کنبے کوت کانرو. اے اللہ رحمت او لیبرے پہ ہفہ چاچہ سفارش لہ راغلہ

إِلَيْهِ الطَّبِيُّ بِأَفْصَحِ الْكَلَامِ ○ اللَّهُمَّ

ورته ہوسے پہ فصیح کلام سرہ. اے اللہ رحمت او لیبرے

صَلِّ عَلَى مَنْ كَلَّمَهُ الصَّبُّ فِي مَجْلِسِهِ

پہ ہفہ چاچہ خبرے ورسرہ کرے دی سمسارے پہ مجلس دہفہ کنبے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ لَيْعْرَاجٍ ○

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب د معراج باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ لُقْضَيْبٍ ○

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب د شمشیر باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَاكِبِ النَّجِيبِ ○

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ سور د اصيلے اوبنے باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَاكِبِ لُبْرَاقٍ ○

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ سور د بُراق باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُخْتَرِقِ السَّبْعِ الطَّبَاقِ ○

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ تیریلونکی د او طبقو د آسمان باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الشَّفِيعِ فِي جَمِيعِ الْأَنَامِ ○

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ شفاعت کونکی دتول مخلوق باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ سَبَّحَتْ فِي كَفِّهِ

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ ہفہ چاچہ تسبیح ویلے وہ پہ ورغوی دہفہ کنبے

مَعَ أَصْحَابِهِ الْأَعْلَامِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ

سره دخیلو بزرگانو. اے اللہ رحمت او لیجے

عَلَى الْبَشِيرِ النَّذِيرِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

پہ زبیر و رکونکی او یرونکی باندے. اے اللہ رحمت او لیجے پہ

السَّراجِ الْمُنِيرِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ

دیوے رویشانه باندے. اے اللہ رحمت او لیجے پہ ہفہ ہستی

شَكَرَ إِلَيْهِ الْبَعِيرُ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

چہ اویں ورتہ شکایت کرے وو. اے اللہ رحمت او لیجے پہ ہفہ چا

مَنْ تَفَجَّرَ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ الْمَاءِ

چہ روانے شوے وے د مینخ دکوتو دھغوی نہ اوچے

التَّيْرِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى طَاهِرٍ مُطَهَّرٍ

صفا. اے اللہ رحمت او لیجے پہ پاک او پاک شوے باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نُورٍ لَا تَوَارٍ ○ اللَّهُمَّ

اے اللہ رحمت او لیجے پہ نورونو پہ نور باندے. اے اللہ

صَلِّ عَلَى مَنْ انشَقَّ لَهُ الْقَمَرُ ○ اللَّهُمَّ

رحمت او لیجے پہ ہفہ ہستی چہ دوہ تکرے شوے وہ ہفہ دبارہ سپورمی

صَلِّ عَلَى الطَّيِّبِ الْمُطِيبِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ

اے اللہ رحمت او لیجے پہ خوشبودار پاکیزہ باندے. اے اللہ رحمت او

عَلَى الرَّسُولِ الْمُقَرَّبِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

لیجے پہ رسول مقرب باندے. اے اللہ رحمت او لیجے پہ

الفَجْرِ السَّاطِعِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّجْمِ

صبا رنرا خورونکی باندے. اے اللہ رحمت او لیجے پہ ستوری

التَّاقِي ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ○

خلیدونکی باندے. اے اللہ رحمت او لیجے پہ دستاویز محکم باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَذِيرِ أَهْلِ الْأَرْضِ ○

اے اللہ رحمت او لیجے پہ یرونکی دزمکہ اوسیلونکو باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الشَّفِيعِ يَوْمَ الْعَرْشِ ○

اے اللہ رحمت او لیجے پہ شفاعت کونکی دورخ دقیامت باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى السَّاقِي لِلنَّاسِ مِنْ

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ شگونکی پہ خلقو باندمے ذ

الْحَوْضِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ

حوض نہ. اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب ذجھنہ

لِوَاءِ الْحَمْدِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُشَمَّرِ

دحمد باندمے. اے اللہ رحمت او لیبرے پہ خیزونکی دلستوری

عَنْ سَاعِدِ الْجِدِّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

دکوشش ذ ست نہ. اے اللہ رحمت او لیبرے پہ عمل کونکی

الْمُسْتَعْمِلِ فِي مَرْضَاتِكَ غَايَةَ الْجَهْدِ

ستاپہ رضامندی طلب کولوکنے پہ دیر کوشش سرہ اے اللہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ الْخَاتَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ

رحمت او لیبرے پہ نبی نبوت ختمونکی باندمے. اے اللہ رحمت او لیبرے

عَلَى الرَّسُولِ الْخَاتَمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُصْطَفَى

پہ رسول نبوت ختمونکی باندمے. اے اللہ رحمت او لیبرے پہ مصطفیٰ

الْقَائِمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِكَ أَبِي الْقَاسِمِ

قائم باندمے. اے اللہ رحمت او لیبرے پہ خپل رسول ابو القاسم باندمے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْإِيَّاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ

اے اللہ رحمت او لیبرے پہ صاحب دنخینو باندمے. اے اللہ رحمت او لیبرے

عَلَى صَاحِبِ الدَّلَالَاتِ اللَّهُمَّ

پہ صاحب ذ لار خود لو باندمے. اے اللہ رحمت

صَلِّ عَلَى صَاحِبِ إِشَارَاتِ اللَّهُمَّ

او لیبرے پہ صاحب داشاراتو باندمے. اے اللہ

صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْكِرَامَاتِ اللَّهُمَّ

رحمت او لیبرے پہ صاحب کراماتو باندمے. اے اللہ

صَلِّ عَلَى صَاحِبِ لَعَلَامَاتِ اللَّهُمَّ

رحمت او لیبرے پہ صاحب ذ علاماتو باندمے. اے اللہ

صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْبَيِّنَاتِ اللَّهُمَّ

رحمت او لیبرے پہ صاحب ذ دلیلونو باندمے. اے اللہ

صَلِّ عَلَى صَاحِبِ الْمُعْجَزَاتِ اَللّٰهُمَّ
رحمت او لیجے د معجزاتو پہ خاوند باندے۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى صَاحِبِ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ
رحمت او لیجے د خرق عادت کارونو پہ صاحب باندے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مَنْ سَلَّمَتْ عَلَيْهِ
اے اللہ رحمت او لیجے پہ ہفہ چاچہ سلام کرے دے ورتہ

الْاَشْجَارِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مَنْ سَجَدَتْ
کانرو۔ اے اللہ رحمت او لیجے پہ ہفہ چاچہ سجدہ کرے دہ

بَيْنَ يَدَيْهِ الْاَشْجَارِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ
دہفہ پہ وړاندے اونو۔ اے اللہ رحمت او لیجے

عَلٰی مَنْ تَقَيَّقَتْ مِنْ نُورِهِ الْاَزْهَارُ
پہ ہفہ چا وتلی دی دنور دہفہ نہ کلنے اے اللہ رحمت

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مَنْ طَابَتْ بِبَرَكَتِهِ
او لیجے پہ ہفہ چا باندے چہ پخے شوے دی دہفہ پہ برکت سرہ

الْتِمَارِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مَنْ اخْضَرَّتْ
مسوے۔ اے اللہ رحمت او لیجے پہ ہفہ چاچہ شنے شوے دی

مِنْ بَقِيَّةِ وَضُوئِهِ الْاَشْجَارِ اَللّٰهُمَّ
دہفہ د اودس نہ پاتے اوبو سرہ اونے۔ اے اللہ

صَلِّ عَلٰی مَنْ قَاضَتْ مِنْ نُوْرِهِ
رحمت او لیجے پہ ہفہ چاچہ ظاہر شوی دی دہفہ دنور نہ

جَمِيْعِ الْاَنْوَارِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی
تول انوار۔ اے اللہ رحمت او لیجے پہ ہفہ چا

مَنْ بِالصَّلٰوةِ عَلَيْهِ تَحَطُّ الْاَوْزَارُ
چہ پہ ہفہ باندے درود لیولو سرہ رژیبری گناہونہ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مَنْ بِالصَّلٰوةِ عَلَيْهِ
اے اللہ رحمت او لیجے پہ ہفہ چا باندے درود دلیکلو سرہ

تُنَالُ مَنَازِلُ الْاَبْرَارِ اَللّٰهُمَّ
حاصلیبری مرتبے دنیکانو۔ اے اللہ

صَلِّ عَلَى مَنْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ يُرْحَمُ

رحمت اولیبرے پہ ہفہ چاہاندچہ پہ ہفہ باندے ددرود لیکلوسرہ رحم

الْكَبَارُ وَالصَّغَارُ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ

کولے شی پہ مشرانو او کشرانو باندے. اے اللہ رحمت اولیبرے پہ ہفہ

عَلَى مَنْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ نَتَنَعَّمُ فِي هَذِهِ

چاہاندے چہ پہ ہفہ باندے درود لیکلوسرہ نعمتونہ حاصلیری مونیرتہ

الدَّارِ وَفِي تِلْكَ الدَّارِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ

پہ دے جہان کنے ہم او پہ ہفہ جہان کنے ہم. اے اللہ رحمت اولیبرے

عَلَى مَنْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ تَنَالُ رَحْمَةً

پہ ہفہ چاہاندے چہ پہ ہفہ باندے درود لیکلوسرہ رسیبری رحمت

الْعَزِيزِ الْعَقَّارِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمَنُصُورِ

د غالب بخینونکی اللہ. اے اللہ رحمت اولیبرے پہ مدد کرے شوی

الْمُؤَيَّدِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُخْتَارِ

تائید کرے شوی باندے. اے اللہ رحمت اولیبرے پہ غورہ کرے شوی

الْمُسَجَّدِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

عزت ور کرے شوی باندے. اے اللہ رحمت اولیبرے زمونیر پہ سردار

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

او مولی محمد باندے. اے اللہ رحمت اولیبرے پہ ہفہ

مَنْ كَانَ إِذَا مَشَى فِي الْبَرِّ الْأَقْفَرِ

چاہاندے چہ کلہ بہ روان وو پہ او چو میدانونو کنے

تَعَلَّقَتْ الْوَحْشُ بِأَذْيَالِهِ ○ اللَّهُمَّ

نواختل بہ وحشی خنارود ہغوی لمنو سرہ. اے اللہ رحمت اولیبرے

صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

پہ ہغوی باندے او ہغوی پہ آل او اصحابو باندے او سلام اولیبرے دیردیر

تَسْلِيمًا ○ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

سلام. او تبول تعریفونہ خاص اللہ دہارہ دی چہ دتبولو عالمونو بالونکے دے

إِبْتِدَاءُ الرَّبِيعِ الثَّانِي

دویم ربع شروع

أَحْمَدُ لِلَّهِ عَلَى حَلِيمِهِ بَعْدَ عَلَيْهِ وَعَلَى

تبول تعریفونہ اللہ لہ دی پہ حلم دھغہ پس د علم دھغہ او پہ

عَفْوِهِ بَعْدَ قُدْرَتِهِ ۝ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ

عفوے دھغہ پس د قدرت دھغہ۔ اے اللہ زہ پناہ نیسم

بِكَ مِنَ الْفَقْرِ إِلَّا إِلَيْكَ ۝ وَمِنَ الذُّلِّ

پہ تاسرہ دمحتاجی نہ مکرستا طرفہ۔ او ذلیل والی نہ

إِلَّا لَكَ ۝ وَمِنَ الْخَوْفِ إِلَّا مَنَّا ۝ وَ

مکر ستا طرفہ او د ویرے نا مکر دتا نہ۔ او

أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَقُولَ زُورًا ۝ أَوْ أَغْشَى

پناہ غوارم پہ تاسرہ چہ اوایم دروغ خیرہ یازتکاب او کرم

فُجُورًا ۝ أَوْ أَكُونَ بِكَ مَغْرُورًا ۝ وَ

ذبدو کارونو یا شمشہ زہ پتا سرہ مغرور او

أَعُوذُ بِكَ مِنْ شِمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ وَعُضَالِ

پناہ غوارم پہ تاسرہ د خوشالیدلو دشمنانوںہ او دستخی

الذَّاءِ وَخَيْبَةِ الرَّجَاءِ وَزَوَالِ النِّعْمَةِ وَ

بیماری نہ او دامیلندہ موندلونہ او ذ نعمت د زوال نہ او

فَجَاءَةِ النِّقْمَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ناسانی مصیت پائے اللہ رحمت اولیرے پہ سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَأَجْزِهِ عَنَّا مَا هُوَ

محمد بانندے او سلام اولیرے پہ ہغہ بانندے او بدلہ ور کرے ہغوی تہ زمونیرہ

أَهْلَهُ حَبِيبِكَ ثَلَاثًا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

کومہ چہ لائقہ دہ ہغہ سرہ ستاحیوب دے (درے خل دلواہی) اے اللہ رحمت اولیرے

سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَأَجْزِهِ عَنَّا

زمونیرہ سردار ابراہیم بانندے او سلام پرے اولیرے او بدلہ ور کرے ہغوی تہ زمونیرہ

مَا هُوَ أَهْلُهُ خَلِيلِكَ ثَلَاثًا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

کومہ چہ لائقہ دہ ہغوی سرہ۔ ستاخلیل دے (درے خل) اے اللہ رحمت اولیرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

زمونیرپہ سردار محمد باندے او زمونیر د سردار محمد پہ آل باندے

كَمَا صَلَّيْتَ وَرَحَّمْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى

خنکے چه ددرو دلکے دے اور رحمت دلکے دے او برکت دلکے دے

سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ

زمونیرپہ سردار ابراہیم باندے پہ تو لو عالمو کنے بیشکے ته ستائیلے

حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَا

شوعے او دلوئی والائے . به شمار دمخلوق خیل او به رضامندی ذات

نَفْسِكَ وَزِينَةَ عَرْشِكَ وَوِدَادَ كَلِمَاتِكَ

خیل اوپه برابر وزن دعرش خیل . اوپه مقدار دسیاهی دکلماتو خیلو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

اے اللہ درود او لیجے زمونیر آ سردار محمد باندے به شمار

مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

دهغه چاچه درودے لیکلے دے به هغه باندے . اے اللہ درود او لیجے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

زمونیرپہ سردار محمد باندے به شمار دهغه چاچه درودے نه دے لیکلے به هغه

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

باندے اے اللہ درود او لیجے زمونیرپہ سردار محمد باندے به شمار دهغه

مَا صَلَّيْتَ عَلَيْهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

چه درود لیکلے شوعے دے به هغه باندے . اے اللہ درود او لیجے زمونیرپہ سردار

مُحَمَّدٍ أضعافَ مَا صَلَّيْتَ عَلَيْهِ ۝ اللَّهُمَّ

محمد باندے دو چند دهغه چه درود لیکلے شوعے دے به هغه باندے . اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ

درود او لیجے زمونیرپہ سردار محمد باندے خنکے چه هغه ددے اهل دے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

اے اللہ درود او لیجے زمونیرپہ سردار محمد باندے خنکے

تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ ۝

ته خوبنوعے او راضی کیجے دهغه نه

دَآكِرَالْحَزْبِ ۱۶۴

الْحَزْبُ الثَّلَاثُ

مُغْلَبُورَم حَزْب دَجَار شَنِسے دُورِخے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رُوْحِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ رحمت اوّلیرے پہ روح د سردار زمونیر پہ چہ محمد دے

فِي الْاَرْوَاحِ وَعَلَى جَسَدِهِ فِي الْاَجْسَادِ

پہ ارواحانو کنبے او پہ بدن دھغوی پہ بدنونو کنبے

وَعَلَى قَبْرِهِ فِي الْقُبُورِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ

اوپہ قبر دھغوی پہ قبرونو کنبے اوپہ آل دھغوی اوپہ اصحابو دھغوی

وَسَلِّمْ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اوسلام پرے اولیرے اے اللہ رحمت اولیرے زمونیر پہ سردار محمد

كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذُّكْرُونَ ۝ اَللّٰهُمَّ

باندمے کلہ چہ یا ذوی ہفہ لره یا ذونکي . اے اللہ

صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَلَّمَا عَفَلَ

رحمت اولیرے زمونیر پہ سردار محمد باندمے . ہر کلہ چہ غفلت کوي

دَآكِرَالْحَزْبِ ۱۶۵

الْحَزْبُ الثَّلَاثُ

عَنْ ذِكْرِهِ الْغَفْلُونَ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

دیاد دھغہ نہ غفلت کونکي . اے اللہ رحمت اولیرے

وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ

اوسلام اولیرے او برکت اولیرے زمونیر پہ سردار محمد باندمے چہ نبی دے

الرَّمِيِّ ۝ وَاَزْوَاجَهُ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ

آمی دے او دھغوی پہ بیبیانو باندمے چہ د مسلمانانو میندمے دی

وَذُرِّيَّتِهِ ۝ وَاَهْلَ بَيْتِهِ صَلَوةً وَسَلَامًا

اودھغوی پہ اولاد باندمے او دھغوی پہ اهل بیتو باندمے داسے درود او سلام

لَا يُحْصَى عَدَدُهُمَا وَلَا يُقْطَعُ مَدَدُهُمَا ۝

چہ نشی پورہ کیدمے شمار دھغہ اونشی پریکیدمے زیاتوالے دھغے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

اے اللہ رحمت او لیرے زمونیر پہ سردار محمد باندمے پہ شمار

مَا اَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ ۝ وَاَحْصَاهُ كِتَابُكَ

دھغے چہ احاطہ پرے کرے وی علم ستا او محفوظ کرے وی کتاب ستا

صَلَاةٌ تَكُونُ لَكَ رِضًا وَرِجْوَةً أَدَاءً

داسے درود چہ شی تادپارہ راضی کیدل اوشی دحق دہفہ دپارہ ادا کیدل

وَأَعْطَاهُ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَاللَّحِجَّةَ

او ورکھے ورلہ وسیلہ اوفضیلت او درجہ

الرَّفِيعَةَ وَابْعَثَهُ اللَّهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ

او چتہ اوڑے لیبے ہفہ مقام محمود تہ چہ تانے

الَّذِي وَعَدْتَهُ وَأَجْرُهُ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ

ورسره وعدہ کرے دہ اوبدلہ ورکھے ورلہ زمونیر دطرفہ دکومے چہ

وَعَلَىٰ جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ

ہفہ لائق دے او بہ تولو پیغمبرانو اورونو دہفوی

الصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

او بہ صدیقانو او شہیدانو او نیک بختانو باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ

اے اللہ رحمت اولیبے زمونیر بہ سردار محمد باندے اوراکوڑے کرے

الْمَنْزِلَ الْمُقَرَّبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝ اللَّهُمَّ

داسے منزل تہ چہ مقرب وی بہ ورخ دقیامت. اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝ اللَّهُمَّ تَوَجَّهْ

رحمت اولیبے زمونیر بہ سردار محمد باندے. اے اللہ عطا کرے ہفوی تہ

بِتَاجِ الْعِزِّ وَالرِّضَا وَالْكَرَامَةِ ۝ اللَّهُمَّ

تاج دعزت او رضامندی او عزتمندی. اے اللہ

أَعْطِ لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ مَا سَأَلَكَ

ورکھے زمونیر سردار محمد تہ غورہ دہفے نہ چہ سوال کرے دے ہفوی

لِنَفْسِهِ وَأَعْطِ لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ

دخپل خان دپارہ او ورکھے زمونیر سردار محمد تہ غورہ دہفہ نہ

مَا سَأَلَكَ لَهُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ وَأَعْطِ

چہ تانہ سوال کرے دے یوتن د مخلوق ستانہ او ورکھے

لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ مَا أَنْتَ مُسْئِلٌ

زمونیر سردار محمد تہ غورہ دہفے نہ چہ تانہ نے سوال شوے دے

لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

هغوی دپاره دقیامت ترورخ پورے۔ اے اللہ رحمت اولییرے زمونیر به

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَيِّدِنَا آدَمَ وَسَيِّدِنَا

سردار محمد باندے اوزمونیر به سردار آدم باندے اوزمونیر به سردار

نُوحٍ وَسَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَسَيِّدِنَا مُوسَى

نوح باندے اوزمونیر به سردار ابراهیم باندے اوزمونیر به سردار موسی باندے

وَسَيِّدِنَا عِيسَى وَمَا بَيْنَهُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

اوزمونیر به سردار عیسی باندے او کوم چه دهغوی په مینخ کنیے دی پیغمبران

وَالْمُرْسَلِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ

اورسولان رحمتونه د اللہ دی اوسلامونه دهغه دوی به هغوی

عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ثَلَاثًا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

تولو باندے۔ درے خل د اوائی۔ اے اللہ درود اولیرے به

عَلَى آيِنَا سَيِّدِنَا آدَمَ وَأُمَّنَا سَيِّدَتِنَا

پلار زمونیر به سردار آدم باندے اوزمونیر به مور اوزمونیر به سردار

حَوَاءَ صَلَوَاتُ مَلَائِكَتِكَ وَأَعْظَمَ مَا مِنْ

حوا بی بی باندے درود د ملائکو او ورکھے دوارو له درضا مندی نه

الرِّضْوَانِ حَتَّى تُرَضِّيَهُمَا وَأَجْزِيَهُمَا ۝ اللَّهُمَّ

تردے پورے چه راضی کرے دوارو لره اوبدله ورکھے دوارو له اے اللہ

أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ بِهِ أَبَاوَأُمَّاعْنَ وَ

غوره دهغه نه چه تابدله ورکھے ده به هغه سره پلار اومور له دهغوی

لَدَيْهِمَا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

دبجو دطرفنه اوزمونیر به سردار میکائیل باندے اوس زمونیر به سردار

جِبْرِيْلَ وَسَيِّدِنَا مِيكَائِيْلَ وَسَيِّدِنَا

جبرائیل باندے۔ اے اللہ رحمت اولیرے زمونیر به سردار

إِسْرَافِيْلَ وَسَيِّدِنَا عِزْرَائِيْلَ وَحَمَلَةَ

اسرافیل باندے اوزمونیر به سردار عزرائیل باندے او به او چتونکو

الْعَرْشِ وَعَلَى الْمَلَائِكَةِ وَالْمُقَرَّبِينَ

د عرش باندے او به تولو فرشتو او مقربینو باندے

وَعَلَىٰ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ صَلَواتُ اللَّهِ

او به تولو نبیانو او مرسلانو باندے. رحمہو نہ دالہ

اللَّهُ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ثَلَاثًا ۝

او سلامونہ دہفہ دیہ ہغوی تولو باندے وی (دے کرت دے ووائی)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَّةَ

اے اللہ رحمت اولییرے زمونیر پہ سردار محمد باندے بہ شمار دہفے

مَا عَلِمْتَ وَمِمَّا مَا عَلِمْتَ وَزِنَةَ مَا

چہ تا تہ معلوم دی او بہ دکوالی دہفے چہ تا تہ معلوم دی او

عَلِمْتَ وَمِمَّا أَدَكَلِمَاتِكَ ۝ اللَّهُمَّ

بہ وزن دہفے چہ تاتہ معلوم دی او بہ مقدار دسیاہی دکلماتوستا اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً مَوْصُولَةً

رحمت اولییرے زمونیر پہ سردار محمد باندے داسے رحمت چہ یو خانے

بِالْمَزِيدِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

شوعے وی زیاتوالی سرہ. اے اللہ رحمت اولییرے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ صَلَوةً لَا تَنْقَطِعُ أَبَدًا أَبَادًا وَلَا

محمد باندے داسے رحمت چہ نہ کت کیری ابدالابا د پورے اونہ فنا

تَنْبِيْدُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

کیری. اے اللہ رحمت او لییرے زمونیر پہ سردار محمد باندے ستا

صَلَاةِكَ الَّتِي صَلَّيْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہفہ رحمت چہ تاور باندے لیکلے دے او سلام اولییرے زمونیر پہ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَلَامِكَ الَّذِي

سردار محمد باندے ستا ہفہ سلام کوم چہ تالیکلے دے بہ ہغوی باندے

سَلَّمْتَ عَلَيْهِ وَأَجْرَهُ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ

اوبدلہ ورلہ ور کرمے زمونیر دطرفنہ د کومے چہ ہفہ اہل دے اے اللہ رحمت

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً

او لییرے زمونیر پہ سردار محمد باندے داسے رحمت چہ راضی کری

تُرْضِيكَ وَتُرْضِيَهُ وَتَرْضَىٰ بِهَا عَسَا

تالرہ اوتہ راضی کرے ہفہ لرہ او راضی شے تہ دہفے بہ وجہ زمونیر نہ

مَا هُوَ أَهْلُهُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

او جزاورد کرے زمونیر دظرفہ دکومر چہ ہفہ اهل دے اے اللہ رحمت اولیرے زمونیر پہ

مُحَمَّدٍ بِخِرَانِ نَوَارِكِ وَمَعْدِنِ أَسْرَارِكِ

سردار محمداہلے شوک چہ دریاب دے دنواروستا اور معدن دے درازونوستا

وَلِسَانِ مَجْمَعِكَ وَعُرْوَسِ مَمْلَكَتِكَ

او ژبہ ده د حجت ستا او خلمے دے د مملکت ستا

وَأَمَامِ حَضْرَتِكَ وَطِرَازِ مُلْكِكَ وَ

اوامام دے د دربار ستا او نقس دے د ملک ستا او

خَزَائِنِ رَحْمَتِكَ وَطَرِيقِ شَرِيعَتِكَ

خزانے دی درحمت ستا او لارہ ده د شریعت ستا

الْمُتَلَدِّذِ بِتَوْحِيدِكَ إِنْسَانَ عَيْنِ

لذت موندونکے دے د توحید ستا کاکے ده دستر گو

الْوَجُودِ وَالسَّبَبِ فِي كُلِّ مَوْجُودٍ عَيْنِ

دموجوداتو او سبب دے پہ ہر موجود کینے سترگہ ده

أَعْيَانِ خَلْقِكَ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ نُورِ

داوحت مخلوق ستا ورائدے کیدونکے دے ستاد نور پہ زبر اسرہ داسے

ضِيَائِكَ صَلَوةً تَدُومٌ يَدِ وَأَمِكَ وَ

رحمت چہ ہمیشہ اوسے ستا پہ ہمیشہ والی سرہ اوباقی پاتے وی

تَبْقُ بِبَقَائِكَ لَا مُنْتَهَى لِهَادُونَ عِلْمِكَ

ستا پہ باقی والی سرہ چہ نہ وی انتہا ہفے لره سواذعلم ستانہ داسے

صَلَوةً تَرْضِيكَ وَتَرْضِيهِ وَتَرْضِي بِهَا

رحمت چہ تراضی کرے اوتہ نے راضی کرے اوراضی شے پہ ہفے سرہ

عَنَّا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

زمونیر نہ اے د مخلوقاتو پالونکیہ اے اللہ رحمت اولیرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ

زمونیر پہ سردار محمد باندے پہ شمار دھفے چہ پہ علم داللہ

اللهِ صَلَوةً دَائِمَةً يَدِ وَأَمِ مُلْكِ اللَّهِ

کینے دی داسے رحمت چہ ہمیشہ وی پہ ہمیشہ والی ذملک داللہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا

أصَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا

إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ

عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَةَ نَفْسِكَ وَزِينَةَ

عَرْشِكَ وَمَدَادَ كَلِمَاتِكَ وَعَدَدَ مَا

دَعَرَشَ خَيْلٌ أَوْ بِه مَقْدَارُ دَسِيَاهِي دَكَلِمَاتُو خَيْلُو أَوْ بِه شِمَار دَهْفِي

دَعَرَشَ خَيْلٌ أَوْ بِه مَقْدَارُ دَسِيَاهِي دَكَلِمَاتُو خَيْلُو أَوْ بِه شِمَار دَهْفِي

ذَكَرَكَ بِه خَلْقِكَ فِيمَا مَضَى وَعَدَدَ مَا هُمْ

ذَكَرُونَكَ بِه فِيمَا بَقِيَ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَ

شَهْرٍ وَجُمُعَةٍ وَيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَسَاعَةٍ

مِّنَ السَّاعَاتِ وَشَجْرٍ وَنَفْسٍ وَطَرْقَةٍ


وَلَمَحَةٍ مِّنَ الْآبِدِ إِلَى الْآبِدِ وَأَبَادِ

الدُّنْيَا وَأَبَادِ الْآخِرَةِ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

لَا يَنْقُطُ أَوَّلُهُ وَلَا يَنْقُذُ آخِرُهُ ○

دَعَرَشَ خَيْلٌ أَوْ بِه مَقْدَارُ دَسِيَاهِي دَكَلِمَاتُو خَيْلُو أَوْ بِه شِمَار دَهْفِي

دَعَرَشَ خَيْلٌ أَوْ بِه مَقْدَارُ دَسِيَاهِي دَكَلِمَاتُو خَيْلُو أَوْ بِه شِمَار دَهْفِي



اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلٰى

اے اللہ رحمت او لبرے زمونیر پہ سردار محمدؐ باندے پہ قدر

قَدْرٍ رَحْمَتِكَ فِيْهِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

د محبت سرہ ہفہ سرہ۔ اے اللہ رحمت او لبرے پہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلٰى قَدْرٍ رِعْنَانِيَّتِكَ فِيْهِ ۝

سردار زمونیر محمدؐ باندے پہ قدر دعنائت سرہ ہفہ سرہ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَقًّا

اے اللہ رحمت او لبرے زمونیر پہ سردار محمدؐ باندے لائق

قَدْرًا وَمَقْدَارًا ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

دقدر دھفہ او دمقدار۔ اے اللہ رحمت او لبرے زمونیر پہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً تُنَجِّينَا بِهَا مِنْ

سردار محمدؐ باندے داسے رحمت چہ نجات راکرے مونیر تہ پہ ہفہ سرہ

جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَالْاَفَاتِ وَتَقْضِيْ لَنَا

دتولو ویرو او آفتونونہ اوپورہ کرے تہ مونیر دپارہ

بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا

دھفہ پہ وجہ تول حاجتونہ اوچہ پاککرے تہ مونیر لہ پہ ہفہ سرہ

مِنْ جَمِيْعِ السِّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا اَعْلٰى

دتولو بدیانونہ اوچہ پورتہ کرے تہ مونیر پہ ہفہ سرہ پہ اعلیٰ

الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَا الْغَايَاتِ

درجوسرہ او چہ اور سوے مونیر پہ ہفہ سرہ آخری نہایتونہ

مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِيْ الْحَيٰوةِ وَبَعْدَ

د تولو نیکو نہ پہ ژوند کنے ہم او روسو

السَّمَاوَاتِ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

دمرگ نہ ہم۔ اے اللہ رحمت او لبرے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ صَلَوةً الرِّضَىٰ وَارْضَ عَنِ

محمدؐ باندے داسے رحمت چہ درضا باعث وی او راضی شے د

اَصْحَابِهِ رِضَاءَ الرِّضَىٰ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ

اصحابو دھفوی نہ درضامندی پہ رضا سرہ۔ اے اللہ رحمت او لبرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّابِقِ لِدَخْلِكَ

په سردار زموڼيز محمد باندې چه ښخکښې نه دې مخلوق دپاره نور دهغوی

نُورُهُ وَرَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ظُهُورُهُ عَدَدُ

اور رحمت دې عالمونو دپاره ظهور دهغوی په شمار دهغه چاچه تیر شوي

مَنْ مَضَى مِنْ خَلْقِكَ وَمَنْ بَقِيَ وَ

دې دمخلوق ستانه او څوک چه باقي دي او څوک چه نیک بخت شوي دي

مَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَمَنْ شَقِيَ صَلَوةٌ

په هغوی کښې او څوک چه بدبخت شوي دي داسې رحمت چه راکیر

تَسْتَغْرِقُ الْعَدَّ وَتُجِيطُ بِالْحَدِّ صَلَوةٌ

کړې شمار لره او احاطه او کړې په حد باندې داسې رحمت چه نه

لَا غَايَةَ لَهَا وَلَا مُنْتَهَى وَلَا انْقِضَاءً

وي غایت هغه لره او نه وي انتها او نه وي تمامیدل داسې رحمت

صَلَوةٌ دَائِمَةٌ يَدُ وَاِمْكٍ وَعَلَى إِلَهٍ وَ

چه همیشه وي په همیشه والي ستاسره او په آل دهغوی او

صَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مِثْلَ ذَلِكَ

په اصحابو دهغوی او اولیوې سلام پشان ددې

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

ای الله رحمت او لیرې زموڼيز په سردار محمد باندې دچاچه

مَلَأَتْ قَلْبَهُ مِنْ جَلَالِكَ وَعَيْتَهُ

زړه ډک کړې دې تا دخپل جلال نه او سترگه دهغوی دخپل جمال

مِنْ جَمَالِكَ فَأَصْبَحَ فَرِحًا مُؤَيَّدًا مَنصُورًا

نه نو شولو خوشاله مدد موندونکې فتحه موندونکې او دهغوی په آل

وَعَلَى إِلَهٍ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا وَالْحَمْدُ

باندې او دهغوی په اصحابو باندې او سلام اولیوې او ټول تعریف

لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

الله دپاره دې په دې باندې ای الله رحمت اولیوې زموڼيز په سردار

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَوْرَاقِ الزَّيْتُونِ

او زموڼيز په مولا محمد باندې په شمار د پانرو د زيتون

وَجَمِيعِ الثَّمَارِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

او دتولو میوو. اے اللہ رحمت او لبرے زمونیر په سردار

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ ۝

او مولا محمد بانده په شمار دهغه چه شوي دي او كيدونكي دي

وَعَدَدَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَضَاءُ ۝

اوپه شمار دهغه چه تياره كره ده وربانده شه او رنرا شوه ده

عَلَيْهِ النَّهَارُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

وربانده ورځ. اے اللہ رحمت او لبرے زمونیر په سردار او مولا محمد

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ

بانده او دهغوی په آل بانده او دهغوی په بیبانو باندي او دهغوی په اولاد

وَذُرِّيَّتِهِ عَدَدَ أَنْفَاسِ أُمَّتِهِ ۝ اللَّهُمَّ

بانده په شمار دسه گانو دامت دهغوی. اے اللہ په برکت درو

بِبَرَكَاتِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ اجْعَلْنَا بِالصَّلَاةِ

دسره په هغوی بانده او کرحو مونیږه په هغوی بانده درو دلکلو سره

عَلَيْهِ مِنَ الْفَائِزِينَ وَعَلَىٰ حَوْضِهِ

د کامیابونکونه او په حوض دهغوی بانده

مِنَ الْوَارِدِينَ الشَّارِبِينَ وَبِسُنَّتِهِ

تیریدو نکو سکو نکو نه او دهغوی په طریقے بانده

وَطَاعَتِهِ مِنَ الْعَامِلِينَ ۝ وَلَا تَحُلْ

او دهغوی په طاعت بانده عمل کونکونه. او پرده مذجوه

بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

زمونیر او دهغوی تر مینځه د قیامت په ورځ اے رب العالمینه

وَاعْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ

او اوبخښه مونیره او زمونیره مورپلار او ټول مسلمانان

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

او ټول تعریفونه الله دپاره دي چه پالونکي دتولو عالمونو د

ابْتِدَاءُ الثَّلَاثِ الثَّانِي

دویم ثلث شروع

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

ای الله رحمت او لبرے او سلام او برکت او لبرے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَرِيمٍ

محمد باندے او پہ آل دسردار زمونیر محمد باندے چه دیر عزتمندے

خَلْقِكَ وَسِرَاجِ أَفْقِكَ وَأَفْضَلِ قَائِمِي

ستا پہ مخلوق کنے او چراغ دے دکنارے دآسمان ستاغوره قائمے

يَحَقِّقُ الْمَبْعُوثِ بِتَيْسِيرِكَ وَرَفَقِكَ

پہ حق ستا لیکلے شوم دے ستاپہ اسانولو سره او ستاپہ نرمی سره

صَلَاةٍ يَتَوَالِي تَكَرُّرُهَا وَتَلَوُّهُ عَلَى

داسے رحمت او لبرے چه پرله پسے وی تکرار دھغے او خلیری پہ

الْأَكْوَانِ أَنْوَارُهَا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

موجوداتو باندے أنوار دھغے ۝ ای الله رحمت او لبرے

وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝

او سلام او برکت او لبرے زمونیر پہ سردار محمد باندے او

عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلِ مَدْرَجٍ

او زمونیر دسردار محمد په آل باندے کوم چه غوره صفت کرے شوم دے

يَقُولِكَ وَأَشْرَفِ دَاعِلِ لِإِعْتِصَامِ

ستاہ قول سره اولونے شرافت والابلونکے دے دپاره قضاوتے نیولو

بِحَبْلِكَ وَخَاتِمِ أَنْبِيَائِكَ وَسُرِّسِكَ

دزی ستا او خاتم دے دنیا ستا او د رسولانو ستا داسے رحمت او

صَلَاةٍ تَبْلِغُنَا فِي الدَّارَيْنِ عَمِيمٍ فَضْلِكَ

لبرے چه ته او رسوے مونیرہ پہ دوارو جهانو کنے عام فضل خیل ته

وَكَرَامَةِ رِضْوَانِكَ وَوَصْلِكَ ۝

او کرامت د رضامنندی خیلے او دوصال خیل ته ای الله

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

رحمت او لبرے او سلام او برکت او لبرے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَرِيمٍ

محمد باندے او پہ آل زمونیر د سردار محمد باندے چه ڈیر عزتمند دے

الْكَرْمَاءِ مِنْ عِبَادِكَ وَأَشْرَفِ الْمُنَادِينَ

پہ تلو عزتمند کنیے د بندگانو ستانہ او ڈیر شرافت والادے پہ ندا کونکو کنیے

لِطُرُقِ رَشَادِكَ وَسِرَاجِ أَقْطَارِكَ وَيَا دِرْكَ

ستادهدایت لارے طرفتہ او چراغ دے دزمکود کنار وستا او ذبنار یوستا

صَلْوَةً لَا تَقْفُ وَلَا تَبِيدُ تُبَلِّغُنَا بِهَا كَرَامَةَ

داسے رحمت پرے اولیرے چه نہ فنا کیری او نہ ختمیری چه او رسوے

الْمَزِيدِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ

مونیرہ ہفے سرہ زبانی عزت تہ اے اللہ رحمت اولیرے او سلام او برکت

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

او لیرے زمونیر پہ سردار محمد باندے او پہ آل د سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ الرَّفِيعِ مَقَامُهُ الْوَاجِبُ تَعْظِيمُهُ

محمد باندے چه او چت دے مقام دہفہ او واجب دے تعظیم دہفہ

وَاحْتِرَامُهُ صَلْوَةٌ لَا تَنْقَطِعُ أَبَدًا وَلَا

او احترام دہفہ داسے رحمت چه نہ منقطع کیری ہیجرے او نہ

تَقْنِي سَرْمَدًا وَلَا تَنْحَصِرُ عَدَدًا ۝

فانی کیری ہمیشہ وی او نہ وی منحصر پہ شمار کنیے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اے اللہ رحمت او لیرے زمونیر پہ سردار محمد باندے او پہ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا

آل د سردار زمونیر محمد باندے خنگہ چه تارحمت لیرے دے زمونیر پہ سردار

إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَالْغُلَامِينَ

ابراہیم باندے او پہ آل د سردار زمونیر ابراہیم باندے پہ عالمونو کنیے

إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ ۝ وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَىٰ

بیشک تہ ڈیر ستائیلے شوے د بندگی والائے اورحمت اولیرے اے اللہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سردار زمونیر محمد باندے او پہ آل د سردار زمونیر محمد باندے

كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ

خو پورے چہ یادوی ہفہ لره یادونکی او غفلت کوی ذکر

ذِكْرِهِ الْغَفْلُونَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

دھفہ نہ غفلت کونکی۔ اے اللہ رحمت او لیجے بہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سردار زمونیر محمد باندے او پہ آل د سردار زمونیر محمد باندے

وَأَرْحَمَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا وَأَوْلَ سَيِّدِنَا

اورحم او کرے بہ سردار زمونیر محمد باندے او پہ آل د سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

محمد باندے او برکت او لیجے بہ سردار زمونیر محمد باندے او پہ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَرَحَّمْتَ

آل د سردار زمونیر محمد باندے خنکہ چہ تادرودلیگلے دے اورحم

وَبَارَكْتَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ

د لیکلے دے اوبرکت دلیگلے دے پہ سردار زمونیر ابراهیم باندے او پہ

آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

آل د سردار زمونیر ابراهیم باندے بیشکہ تہ ذیر ستائیلے شومے نے د بزرگی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ

والاے اے اللہ رحمت او لیجے بہ سردار زمونیر محمد باندے چہ نبی دے

الْأُمِّيِّ الطَّاهِرِ الْمَطْهَرِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ

آمی دے، پاک دے، پاک کرے شومے دے او پہ آل دھفوی او سلام او لیجے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مَنْ خَتَمْتَ بِهِ الرِّسَالَهَ

اے اللہ رحمت او لیجے بہ ہفہ چاچہ تا ختم کرے دے بہ ہفہ باندے رسالت

وَأَيَّدْتَهُ بِالنُّصْرَةِ الْكَوْثَرِ وَالشَّفَاعَةَ

او دھفہ تائید دکرے دے بہ امداد سرہ او پہ کوثر او شفاعت سرہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

اے اللہ رحمت او لیجے زمونیر پہ سردار محمد باندے

بِنَبِيِّ الْحُكْمِ وَالْحِكْمَةِ السَّرَاجِ الْوَهَّاجِ

چہ نبی دے دُحکم او حکمت روینانہ چراغ دے

الْمَخْصُوصِ بِالْخُلُقِ الْعَظِيمِ وَخْتَمِ

خاص کرے شوے دے بہ عظیم خونی سرہ او ختمونکے

الرُّسُلِ ذِي الْمِعْرَاجِ وَعَلَى إِلِهِ وَ

درسولانو خاوند د معراج او پہ آل دھغوی او پہ

أَصْحَابِهِ وَاتِّبَاعِهِ السَّالِكِينَ عَلَى

اصحابو دھغوی او پہ پیروی کونکو دھغوی کوم چہ تلونکی دی پہ

مَنْهَجِهِ الْقَوِيمِ ۝ فَأَعْظِمِ اللَّهُمَّ بِهِ

لارہ رویشانہ نیغہ بانڈے . پس عظیمہ کرے اے اللہ پہ ہغوی سرہ

مِنْهَاجِ نُجُومِ الْإِسْلَامِ وَمَصَابِيحِ

دا سلام رویشانہ ستورو لارہ او دیوے

الظَّلَامِ الْمُهْتَدَى بِهَمْرِ فِي ظُلْمَةِ لَيْلِ

ڈتیارو چہ ہدایت موندے شی پہ ہغوی سرہ پہ تیارے دشیے

الشُّكِّ الدَّائِجِ صَلَوةً دَائِمَةً مُسْتَمِرَّةً

ڈشک تورے کنے . داسے رحمت اولیہے چہ ہمیشہ جاری او سی

مَا تَلَا طَمَّتْ فِي الْأَجْحَرِ الْأَمْوَاجِ وَطَا

لوغو پورے چہ چپے وہی پہ دریاہونو کنے موجونہ او طواف کوی

بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۝

دخانہ کعمے نہ دھرے لارے لارے نہ

الْحَجَّاجِ وَأَفْضَلُ الصَّلَوةِ وَالسَّلِيمِ عَلَى

حج کونکی او غورہ درود او سلام دوی پہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَصَفْوَتِهِ

سردارز مونیر محمد بانڈے چہ عزتمنبرسول دھغے دے او برگزیدہ دھغے دے

مِنَ الْعِبَادِ وَشَفِيعِ الْخَلَائِقِ فِي لَيْلِ عَادِ

د بند یگانونہ او شفاعت کونکے د مخلوقات تودے دقیامت پہ ورخ

صَاحِبِ لِمَقَامِ الْمَحْمُودِ وَالْحَوْضِ

صاحب د مقام محمود دے او دحوض دے چرتہ بہ چہ

الْمَوْرُودِ النَّاهِضِ بِأَعْبَاءِ الرِّسَالَةِ

خلق راخی کوزیری بہ او چتونکے د عباگانو درسات

والتبلیغ الأعمّ والمخصوص بشرف

او د تبلیغ د احکامو عامو او خاصو، په شرف

السعیة فی صلاح الأعظم ۰ صلی

د کوشش کولو په ډیره لویه ښکړه کېښی، درود ډاو لیری

الله علیه وعلى إله صلوة دایمة

الله تعالیٰ په هغوی باندې او په آل دهغوی داسه درود چه همیشه

مستمرة الدوام علی مر اللیل والایام

جاری وی، همیشه په جاری او سیدلو د شپو او دورخو کېښی

فهو سید الأولین والأخرین و

پس هغه سردار د او لنو او روستنو دې او

أفضل الأولین والأخرین ۰ علیه

ډیر غوره دې په رومینو او روستنو کېښی، په هغوی ډوی

أفضل صلوة المصلین ۰ وأزکی

غوره درود د درود وډیونکو، او پاکیزه

سلام المسلمین ۰ وأطيب ذکر

سلام د اسلام لیکونکو، او ډیر پاکیزه ذکر

الذکرین ۰ وأفضل صلوات الله

د ذکر کونکو او ډیر غوره درودونه د الله

وأحسن صلوات الله ۰ وأجل صلوات

او ډیر ښکلې درودونه د الله، او ډیر او چت درودونه

الله ۰ وأجمل صلوات الله ۰ و

د الله، او ډیر ښائسته درودونه د الله او

أكمل صلوات الله ۰ وأسبغ صلوات

ډیر کامل درودونه د الله او ډیر پوره درودونه

الله ۰ وأتم صلوات الله ۰ وأظهر

د الله او ډیر پوره درودونه د الله او ډیر روښانه

صلوات الله ۰ وأعظم صلوات الله

درودونه د الله او ډیر لوڼی درودونه د الله

وَأَذْكُرُ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَطِيبُ صَلَوَاتِ اللَّهِ

او دیر روشانه درودونه د الله. او دیر پاکیزه درودونه

اللَّهُ وَأَبْرِكُ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَزْكُرُ

د الله، او دیر برکت والا درودونه د الله او دیر پاکیزه

صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَنْتَعِي صَلَوَاتِ اللَّهِ

درودونه د الله او دیر زیاتیدونکی درودونه د الله

وَأُوْفِي صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَسْتَعِي صَلَوَاتِ اللَّهِ

او دیر پوره درودونه د الله او دیر او چت درودونه

اللَّهُ وَأَعْلَى صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَكْثَرُ

د الله او دیر زیات او چت درودونه د الله او دیر

صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَجْمَعُ صَلَوَاتِ اللَّهِ

درودونه د الله او دیر جامع درودونه د الله

وَأَعْمُرُ صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَدْوَمُ صَلَوَاتِ اللَّهِ

او دیر عام شوی درودونه د الله او همیشه پاتے کیدونکی درودونه

اللَّهُ وَأَبْقِي صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَعِزُّ

د الله او باقی پاتے کیدونکی درودونه د الله او دیر عزتمند

صَلَوَاتِ اللَّهِ وَأَرْفَعُ صَلَوَاتِ اللَّهِ

درودونه د الله او دیر او چت درودونه د الله

وَأَعْظِمُ صَلَوَاتِ اللَّهِ عَلَى أَفْضَلِ خَلْقِ

او دیر لوئے درودونه د الله، په دیر غوره مخلوق

اللَّهُ وَأَحْسِنُ خَلْقِ اللَّهِ وَأَجَلُّ

د الله او په دیر خائسته مخلوق د الله. او په دیر او چت

خَلْقِ اللَّهِ وَأَكْرِمُ خَلْقِ اللَّهِ وَأَجْمَلُ

مخلوق د الله او په دیر عزتمند مخلوق د الله او په دیر خائسته

خَلْقِ اللَّهِ وَأَكْمَلُ خَلْقِ اللَّهِ

مخلوق د الله او په دیر کامل مخلوق د الله

وَأَتَوَّخَلِّقُ اللَّهِ وَأَعْظِمُ خَلْقِ اللَّهِ

او په دیر پوره مخلوق د الله او په دیر لوئے مخلوق د الله

عِنْدَ اللَّهِ ○ رَسُولِ اللَّهِ ○ وَنَبِيِّ اللَّهِ

به نزد د الله - رسول د الله او نبي د الله

وَحَبِيبِ اللَّهِ ○ وَصَفِيِّ اللَّهِ ○ وَرَجِيِّ اللَّهِ

او حبيب د الله او غوره كړم شوم د الله او هم كلام د الله

وَخَلِيلِ اللَّهِ ○ وَوَلِيِّ اللَّهِ ○ وَآمِنِ اللَّهِ

او دوست د الله او ولي د الله او امين د الله

وَخَيْرَةِ اللَّهِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ ○ وَنُحْبَةِ

او غوره كړم شوم د الله د مخلوق د الله نه او منتخب شوم

اللَّهِ مِنْ بَرِيئَةِ اللَّهِ ○ وَصَفْوَةِ اللَّهِ

د الله د مخلوق د الله نه او برکزيده د الله

مِنْ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ ○ وَعُرْوَةِ اللَّهِ ○ وَ

د الله په پيغمبرانو كښم او رسي د الله او

عِصْمَةِ اللَّهِ ○ وَنِعْمَةِ اللَّهِ ○ وَمِفْتَاحِ

عصمت د الله او نعمت د الله او كنجي

رَحْمَةِ اللَّهِ ○ الْمُخْتَارِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ

رحمت د الله غوره كړم شوم درسلانو د الله نه

الْمُنْتَخِبِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ لِقَائِهِ بِالْمَطْلَبِ

منتخب كړم شوم د الله د مخلوق نه رسيدونكې د مطلب ته

فِي الْمَرْهَبِ وَالْمَرْغَبِ الْمَخْلَصِ فِي

په ويره كښم او په اميد كښم. خالص كړم شوم د هغه څه كښم

مَا وَهَبَ ○ أَكْرَمِ مَبْعُوثِ أَصْدَقِ

چه ور كړم شوي دي. ډير عزتمند ليكلې شوم، ډير رشتياويونكې

قَائِلِ ○ أَنْجِحِ شَافِعِ ○ أَفْضَلِ مُشْفَعِ

ډير كامياب شفاعت كونكې ډير غوره شفاعت قبول شوم امانتدار د هغه

الْآمِنِ فِي مَا اسْتَوْدِعَ الصَّادِقِ فِي مَا

په هغه څه كښم چه ورسره امانت شوي دي رشتني په هغه څه كښم

بَلَّغِ الصَّادِعِ بِأَمْرِ رَبِّهِ الْمُضْطَرِعِ بِمَا

چه رسولې ئې دي ظاهر دمكې دحكم درب خپل ثابت قدم په هغه څه

مَحَلَّ ۞ اقْرَبِ رُسُلِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَوَسِيلَةَ

چه ورته بارشوي دي نزديك تر دالله به رسول نوا كننه الله ته په وسيله كننه

وَاعْظِمِهِمْ غَدًّا عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً ۞ وَ

اوزيات او چت به وي صباله قيامت كننه دالله په نزديك مرتبه كننه او

فَضِيلَةً ۞ وَاكْرِمِ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ الْكِرَامِ

په فضيلت كننه او ډير عزتمند د الله تعالي په انبياء كرامو كننه

الصَّفْوَةَ عَلَى اللَّهِ ۞ وَأَحْبِبَّهُمْ إِلَى اللَّهِ

غوره شوه د الله په نزد او زيات خوښ الله تعالي ته

وَاقْرَبِهِمْ زُلْفَى لَدَى اللَّهِ ۞ وَاكْرِمِ

اوزيات نزدك د الله په نزد او زيات عزتمند په مخلوق كننه الله ته

الْمَخْلُوقَ عَلَى اللَّهِ ۞ وَأَحْظَاهُمْ وَأَرْضَاهُمْ

اوزيات نزدك په هغوى كننه اوزيات راضي اوسيدونك په هغوى كننه

لَدَى اللَّهِ ۞ وَأَعْلَى النَّاسِ قَدْرًا ۞

د الله په نزد اوزيات او چت په خلقو كننه په مرتبه كښي او ډير لوړ په هغوى

وَاعْظِمِهِمْ مَحَلًّا ۞ وَاكْبِرْهُمْ مَحَاسِنًا

كننه په مرتبه كننه او ډير كامل په هغوى كننه په نيكو او فضيلت كننه

وَفَضْلًا ۞ وَأَفْضَلِ الْأَنْبِيَاءِ دَرَجَةً ۞ وَ

او غوره په نبیانو كننه په درجه كننه اوزيات كامل دهغوى نه په شريعت

اَكْبِرْهُمْ شَرِيعَةً ۞ وَأَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

كننه اوزيات شرافت والا په نبیانو كننه په اصل كننه اوزيات روښانه په

نَصَابًا ۞ وَأَبْيَرِهِمْ بَيَانًا ۞ وَخَطَابًا ۞ وَأَفْضَلِهِمْ

هغوى كننه په بيان او خطاب كننه او ډير غوره په خلقو كننه ديبداش

مَوْلِدًا ۞ وَأُمَّهَجْرًا ۞ وَعَتْرَةً ۞ وَأَصْحَابًا ۞ وَاكْرِمِ

خانكې كننه او دهجرت خانكې كننه او په اولاد او اصحابو كننه اوزيات

النَّاسِ أَرْوَمَةً ۞ وَأَشْرَفِهِمْ جُرْتُومَةً ۞

عزتمند په خلقو كننه په اصل كننه اوزيات شرافت والا په جماعت كننه

وَخَيْرِهِمْ تَفْسًا ۞ وَأَطْهَرِهِمْ قَلْبًا ۞ وَأَصْدَقِهِمْ

اوبهترين په هغوى كننه په اعتبار د خان سره اوزيات صفات زړه والا اوزيات

قَوْلًا وَآزَكَّهُمْ فَعَلًا وَآثَبْتَهُمْ أَصْلًا وَ

رَشَحْتَهُمْ بِهَمْوِي كَيْفِي بِهٖ قَوْل كَيْفِي اَوْفِي رِيَاك دِي هَمْوِي كَيْفِي بِهٖ فَعْل كَيْفِي اَوْزِيَات بُوخ دِي هَمْوِي كَيْفِي

اَوْفَهُمْ عَهْدًا اَوْ اَمَكْنَهُمْ مَجْدًا اَوْ اَكْرَمَهُمْ

بِهٖ اَصْل كَيْفِي اَوْزِيَات بُوخ كُوْنَكِي دِي هَمْوِي كَيْفِي بِهٖ لُوْط كَيْفِي اَوْزِيَات بُوخ دِي هَمْوِي كَيْفِي بِهٖ بَزْ كِي كَيْفِي

طَبْعًا وَاَحْسَنَهُمْ صُنْعًا وَاَطْيَبَهُمْ فِرْعًا وَاَوْزِيَات عَزْمَلَدِي دِي هَمْوِي كَيْفِي بِهٖ طَبِيع كَيْفِي اَوْزِيَات بِنَهٖ دِي هَمْوِي كَيْفِي بِهٖ نِيْ كِي كَيْفِي اَوْزِيَات بَا كِيْرَهٖ دِي

اَكْثَرَهُمْ طَاعَةً وَّسَمْعًا وَاَعْلَمَهُمْ مَّقَامًا

بِهٖ دَهْمُوِي كَيْفِي بِهٖ اَوْلَا دِي كَيْفِي اَوْزِيَات دِي هَمْوِي كَيْفِي بِهٖ بَدِيْ كِي كَيْفِي اَوْبِهٖ اَوْزِيَات كَيْفِي اَوْفِي رُوْجْت دِي هَمْوِي

وَاَحْلَمَهُمْ كَلَامًا وَاَزَكَّهُمْ سَلَامًا وَاَجَلَّهُمْ

كَيْفِي بِهٖ مَقَام كَيْفِي اَوْزِيَات حُوْج دِي هَمْوِي كَيْفِي بِهٖ خِيْرُو كَيْفِي اَوْزِيَات بَا كِيْرَهٖ هَمْوِي كَيْفِي بِهٖ سَلَام كَيْفِي اَوْزِيَات

قَدْرًا وَاَعْظَمَهُمْ فَخْرًا وَاَسْنَمَهُمْ فَخْرًا

اَوْجْت دِي هَمْوِي كَيْفِي بِهٖ فُلُو كَيْفِي اَوْزِيَات اَوْجْت دِي هَمْوِي كَيْفِي بِهٖ فَعْر كَيْفِي اَوْزِيَات رُوْجْتَهٖ دِي هَمْوِي كَيْفِي بِهٖ

وَاَرْفَعَهُمْ فِي لِسَانِ الْأَعْلَى ذِكْرًا وَاَصْدَقَهُمْ

لَعْر كَيْفِي اَوْزِيَات اَوْجْت دِي هَمْوِي كَيْفِي فَعْر شُوْبِهٖ وَبِهٖ كَيْفِي بِهٖ ذِكْر كَيْفِي اَوْزِيَات رَشَحْتَهُ دِي هَمْوِي كَيْفِي

وَعْدًا وَاَكْثَرَهُمْ شُكْرًا وَاَعْلَمَهُمْ أَمْرًا

بِهٖ وَعْدَهٖ كَيْفِي اَوْزِيَات دِي هَمْوِي كَيْفِي بِهٖ شُكْر كُوْرَاِي كَيْفِي اَوْزِيَات اَوْجْت دِي هَمْوِي

وَاَجْمَلَهُمْ صَبْرًا وَاَحْسَنَهُمْ خَيْرًا وَاَكَيْفِي بِهٖ فَرْمَان كَيْفِي اَوْزِيَات بِنِكَلِي دِي هَمْوِي كَيْفِي بِهٖ صَبْر كَيْفِي اَوْزِيَات بِنَهٖ دِي هَمْوِي

وَاَقْرَبَهُمْ يُسْرًا وَاَبْعَدَهُمْ مَكَانًا وَاَكَيْفِي بِهٖ نِيْ كِي كَيْفِي اَوْزِيَات نَزْدِي دِي هَمْوِي كَيْفِي بِهٖ اَسَانِي كَيْفِي اَوْزِيَات اَوْجْت دِي

اَعْظَمَهُمْ شَأْنًا وَاَثَبْتَهُمْ بُرْهَانًا وَاَكَيْفِي بِهٖ مَكَان كَيْفِي اَوْزِيَات لُوْنِي دِي هَمْوِي كَيْفِي بِهٖ شَان كَيْفِي اَوْزِيَات مَضْبُوْط دِي

اَرْجَحَهُمْ مِيزَانًا وَاَوَّلَهُمْ اِيْمَانًا وَاَكَيْفِي بِهٖ دَلِيْل كَيْفِي اَوْزِيَات دِرُوْنَلَدِي دِي هَمْوِي كَيْفِي بِهٖ مِيْزَان كَيْفِي اَوْاَوَّل دِي هَمْوِي كَيْفِي بِهٖ

اَوْضَحَهُمْ بَيَانًا وَاَفْصَحَهُمْ لِسَانًا وَاَكَيْفِي بِهٖ اِيْمَان كَيْفِي اَوْزِيَات اَوْضَح دِي هَمْوِي كَيْفِي بِهٖ بِيَان كَيْفِي اَوْزِيَات فَصِيْح دِي هَمْوِي كَيْفِي بِهٖ

أَظْهَرَهُمْ سُلْطَانًا

زُبِهٖ كَيْفِي اَوْزِيَات ظَاهِر دِي هَمْوِي كَيْفِي بِهٖ دَلِيْل دِرَسَالَت كَيْفِي

الْحَزْبُ الرَّابِعُ فِي يَوْمِ الْخَمِيسِ
خلورم حزب د زیارت دورخ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ
ای اللہ رحمت او لبرے زموئیر پہ سردار محمد باندے چه ستا بندہ دے

وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا
او ستا رسول دے نبی اُمی دے او پہ آل د سردار زموئیر

مُحَمَّدٍ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا
محمد باندے ای اللہ رحمت او لبرے زموئیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً
محمد باندے او زموئیر د سردار محمد پہ آل باندے داسے رحمت

تَكُونُ لَكَ رِضَىٰ وَلَهُ جَزَاءٌ وَ لِحَقِّهِ
چه ترے درضاسبب شی او هغوی دپاره جزاشی او دهغوی د حق دپاره

أَدَاءٌ وَأَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَ
ادا والے شی او ورکے ورله وسیله او فضیلت او

الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ وَأَجْرَهُ
هغه مقام محمود ذکوم چه تا وعده کرے ده هغه سره او جز اورله ورکے

عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ وَأَجْرَهُ أَفْضَلُ مَا
زموئیر د طرفه ذکومے چه هغه لائق وی او بدله ورله ورکے غوره دهغه نه


جَازَيْتَ نَبِيًّا عَن قَوْمِهِ وَرَسُولًا عَن
چه تا بدله ورکے ده یونی ته دخپل قومنه او یورسول ته دخپل

أُمَّتِهِ وَصَلِّ عَلَى جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنْ
امت د طرفنه او رحمت او لبرے په ټولو روترو دهغوی د پیغمبرانو

النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِمِينَ
نه او ذنیک بختانونه ای زیات رحم کونکیه په ټولو رحم کونکو کنجے

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فَضَائِلَ صَلَواتِكَ وَ
ای اللہ او کرخوئے غوره رحمتونه خپل

شَرَائِفَ زَكَواتِكَ وَنَوَامِي بَرَكَاتِكَ
او چت خیرونه او خوبیانے خپلے او زیاتیدونکی برکتونه خپل



وَعَوَاطِفَ رَأْفَتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَتَحَنُّنِكَ
او مہربانیاں ذ بخشش خہل او رحمت خہل او سلام خہل

وَفَضَائِلَ الْأَيْكِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
او غورہ نعمتوںہ خہل زمونیر بہ سردار محمد بانده

سَيِّدِنَا لِمُرْسَلِينَ وَرَسُولٍ رَبِّ الْعَالَمِينَ
چہ سردار د رسولانو دہ او رسول درب العلمین دہ

قَائِدِ الْخَيْرِ وَفَاتِحِ الْبُرُوجِ رَبِّ الرَّحْمَةِ
قائد دخیر دہ او کولاوونکے دنیکے دہ او نبی درحمت دہ

وَسَيِّدِ الْأُمَّةِ ۝ اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا
اوسردار دامت دہ۔ اے اللہ وے لہیرے مقام محمود تہ چہ نزدہ

مَحْمُودًا تَرْزُقْ بِهِ قُرْبَهُ وَتُقْرِبْهُ عَيْنَهُ
کرے تہ دھغہ بہ سبب قرب دھغوی او چہ یخے کرے دھغہ بہ سبب سترکے

يَغِيْظُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ ۝
دھغوی چہ پستخیری ورتہ دھغہ بہ سبب اولیٰ خلق ہم او روستونی ہم

اللَّهُمَّ أَعْطِهِ الْفَضْلَ وَالْفَضِيلَةَ
اے اللہ ودرکے ورتہ بہتر والے او فضیلت

وَالشَّرَفَ وَالْوَسِيلَةَ وَالدرَجَةَ الرَّفِيعَةَ
او شرف او وسیلہ او او چتہ درجہ

وَالْمَنْزِلَةَ الشَّامِخَةَ ۝ اللَّهُمَّ أَعْطِ
او او چتہ مرتبہ۔ اے اللہ ودرکے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَبَلِّغْهُ
زمونیر سردار محمد تہ وسیلہ او وے زسومے

مَا مَوْلَاهُ وَاجْعَلْهُ أَوَّلَ شَافِعٍ وَأَوَّلَ
خہل امید تہ او وے کرخومے رومے شفاعت کونکے او رومے

مُشْفِعٍ ۝ اللَّهُمَّ عَظِّمْ بُرْهَانَهُ وَ
شفاعت قبول کرے شوے۔ اے اللہ او چت کرے دلیل دھغوی او

تَقِلْ مِيزَانَهُ وَأَبْدِجْ حُجَّتَهُ وَارْفَعْ
درونہ کرے میزان دھغوی اوروشانہ کرے حجت دھغوی او او چتہ کرے

فِي أَهْلِ عَلِيٍّ دَرَجَتَهُ ۝ وَفِي
په عليين والو کنه درجه دهغوی او په

أَعْلَى الْمُقَرَّبِينَ مَنْزِلَتَهُ ۝ اللَّهُمَّ
او چنو مقربينو کنه مرتبه دهغوی. اے الله

أَحْيِنَا عَلَى سُنَّتِهِ ۝ وَتَوْفِقْنَا عَلَى مِلَّتِهِ ۝
مونيزوندي اولر په طريقه دهغوی او مونيزه مرگ راولر په ملت دهغوی

وَاجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِهِ وَاحْشُرْنَا
او اوگر خوے مونير اهل دشفاعت دهغوی. او مونيزه راهاسوے

فِي زُمْرَتِهِ وَأَوْرِدْنَا حَوْضَهُ ۝ وَاسْقِنَا
دهغوی په زمرة کنه او مونيزه ورو لر دهغوی حوض ته. او په مونيزه او

مِنْ كَأْسِهِ غَيْرِ خَزَايَا وَلَا نَادِمِينَ وَ
خکوے دهغوی دجام نه چه نه مونيزه رسواشوي يواونه شرمنده يو او

لَا شَاكِينَ وَلَا مُبَدِّلِينَ وَلَا مُغَيِّرِينَ
نه شك كونكي يو اونه بدلونكي يو اونه تغير راوستونكي يو

وَلَا فَاتِنِينَ وَلَا مَفْتُونِينَ أَمِينَ يَا
او نه گمراه كونكي يو اونه گمراه كيلونكي يو. قبوله کرے اے

رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
رب العالمينه. اے الله رحمت او لبرے زمونيزه

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
سردار محمد باندے او زمونيزه سردار محمد په آل باندے

وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفُضَيْلَةَ وَالذَّجَجَةَ
او ور کرے ورته وسيله او فضيلت او درجه

الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ
او چنه او بونے خه هغه مقام محمود ته چه ته

الَّذِي وَعَدْتَهُ مَعَ إِخْوَانِهِ النَّبِيِّينَ ۝
نه ورسره وعده کرے ده سره ذبيغمبر انورونرو دهغوی سره رحمت

صَلِّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِبِي الرَّحْمَةِ
داو کري الله تعالی زمونيزه سردار محمد باندے چه درحمت نبي دے

وَسَيِّدِ الْأُمَّةِ وَعَلَىٰ آيِنَا سَيِّدِنَا

او سردار امت دے، او زمونیر پہ پلار حضرت آدم بانده

أَدَمَ وَأُمْنَا سَيِّدِنَا خَوَاءَ وَمَنْ وُلْدَا

اوزمونیر پہ موربی بی حوابانده او خوک چه هغوی نه پیدا شوی دی

مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

د پیغمبرانو نه او صدیقانوه او شهیدانوه

وَالصَّالِحِينَ وَصَلِّ عَلَىٰ مَلِكِكَ

او صالحانوه او رحمت او لیرے پہ خپلو ملائکو تبولانده

أَجْمَعِينَ مِنْ أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ

په اسمانونو کنه اوسیدونکے او په زمکوبے او سیدونکے او په

وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ ○

مونیر بانده هم د هغوی سره اے لورے رحم کونکيه په تبولورحم کونکو کنه

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَرِوَالِدِي

اے الله او بخینه ماته گناهونه خما او خما مور پلارته

وَأَرْحَمَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَ

اورحم او کرے په هغوی بانده خنکه چه هغوی زه باللے یم په ورو

لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

کوالی کنه او تبول مومنان سړی او مومنانه بنخه

وَالْمُسْلِمِينَ وَالسُّلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ

اومسلمانان سړی اومسلمانه بنخه کوم چه ژوندي دي په هغوی کنه او کوم

مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ وَتَبَاعَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ

چه سره دي اوتابع کرے په مینخ زمونیره او په مینخ د هغوی کنه

بِالْخَيْرِ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ

په بنه کرووسره اے رب بخینه او کرے ماته اورحم رابلله او کرے لوته لیر پهرته

خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ○ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ

رحم کونکو کنه لے اونشته دے گناهونو په کیدل اونه قوت دیکي کولو

إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ○

مگر په توفیق دالله سره چه لیر او جت او لیر لورے دے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نُورِ

اے اللہ رحمت او لبرے زمونیر پہ سردار محمد باندے چہ نور دے

الْأَنْوَارِ وَسِرِّ الْأَسْرَارِ وَ سَيِّدِ

پہ انوارو کنے او راز دے پہ رازونو کنے او سردار دے

الْأَبْرَارِ وَ زَيْنِ الْمُرْسَلِينَ الْاٰخِيَارِ

دنیکانو او زینت دے دمرسلانو نیکانو

وَ اَكْرَمِ مَنْ اَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَ

اوزیات عزتمند دے پہ ہفہ چاکنے چہ تیارہ کرے دہ ورباندے شہہ او

أَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ عَدَدَ مَا نَزَلَ

رہا کرے دہ ورباندے ورخ' پہ شمار دھے چہ راکوز شوی دی

مِنْ أَوَّلِ الدُّنْيَا إِلَىٰ آخِرِهَا مِنْ قَطْرِ

د دنیا دشروع نہ تر آخرہ پورے دغاخکو

الْأَمْطَارِ وَعَدَدَ مَا نَبَتَ مِنْ أَوَّلِ

دبارانونونہ او پہ شمار دھفہ چہ توکیدلی دی دشروع

الدُّنْيَا إِلَىٰ آخِرِهَا مِنَ النَّبَاتِ وَالْأَشْجَارِ

د دنیا نہ تر آخرہ پورے ذ بوتونہ او ذ او نونہ داسے رحمت

صَلْوَةٍ دَائِمَةٍ يَدَاؤِ مَلِكِ اللَّهِ الْوَاحِدِ

چہ ہمیشہ وی ہمیشہ والی دملک داللہ چہ یودی اوزبردست

الْقَهَّارِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دے اے اللہ رحمت او لبرے زمونیر پہ سردار محمد باندے داسے رحمت

صَلْوَةٍ تُكْرَمُ بِهَا مَثْوَاهُ وَ تُشْرَفُ بِهَا

چہ عزتمند کرے پہ ہفے سرہ تہکانہ دھغوی او عزتمند کرے پہ ہفے سرہ

عُقْبَاهُ وَ تُبَلِّغُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنَاهُ وَ

آخرت دھغوی اووے رسوے پہ دے سرہ پہ ورخ دقیامت مرادخبل تہ او

رِضَاهُ ۝ هَذِهِ الصَّلَاةُ تُعْظِمُ الْحَقِّكَ

رضامندی خیلے تہ. دادرود تعظیم دے دپارہ دحق ستاسو

يَا سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا ۝ ثَلَاثًا ۝ اللَّهُمَّ

اے زمونیر سردار محمدہ. دے خل د اووانی. اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ حَاءِ الرَّحْمَةِ

رحمت اولينے زمونيرپه سردار محمد بانديں چه دهغوى دنوم مبارک رحمت

وَمِيعَى الْمَلِكِ وَدَالِ الدَّوَامِ السَّيِّدِ

دے اودوازه ميمونه نے ملک ددنيا او آخرت دے اودال دلالت کوي په

الْكَامِلِ الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ عَدَدَ مَا فِي

دوام درحمت سردار کامل دے دخيردوازه کولانکے دے خاتم د پيغمبرانو

عَلَيْكَ كَأَنَّ أَوْ قَدْ كَانَ كَلِمًا ذَكَرَكَ

دے په شمار دهغه چه ستا په علم کنیے کيلونکي دي ياشوي دي چه کوم وقت

وَذِكْرَةَ الذِّكْرُونَ وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ

يادوي تالره اويادوي هغوي لره يادونکي او کوم وخت چه غافل شي

ذِكْرِكَ وَذِكْرِهِ الْغَفْلُونَ ۝ صَلَوَةٌ

ستادد کر نه او دهغوى دذکر نه غفلت کونکي داسے رحمت اولينے

دَائِمَةٌ يَدَاؤِ مَكَبَاقِيَةٍ بَقَائِكَ

چه هميشه اوسي سره دهميشه والي ستا باقي اوسي سره دباقي والي ستا

لَا مُنْتَهَى لِهَادُونَ عَلَيْكَ إِنَّكَ

چه نه وي انتها دپاره دهغه سوادعلم ستانه بيشکه ته

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ ثَلَاثًا ۝ اللَّهُمَّ

په هر شيز بانديں قدرت لرونکے نے درے خل داوواني اے الله

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ

رحمت او لينے زمونير په سردار محمد بانديں نبي

الرُّمِّيِّ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

أمي دے او زمونير د سردار محمد په آل بانديں خوک چه

هُوَ أَبِي هُوَ أَبِي شَمُوسِ الْهُدَى تَوْرًا وَ

زيات زيبا دي دهدايت دنمونونه په رنرا کنیے اوزيات غالب

أَبْهَرَهَا ۝ وَأَسِيرُ الْأَنْبِيَاءِ فَخْرًا وَ

دي په هغوي اولونے سير کونکے په انبياؤ کنیے په فخر کنیے اوزيات

أَشْهَرَهَا ۝ وَتُورَةَ أَزْهَرَانُورِ الْأَنْبِيَاءِ

مشاورپه هغوي کنیے اونور دهغوي زيات خليدونکے دے دانوارو دانبياؤ نه

وَأَشْرَفُهَا وَأَوْضَحُهَا وَأَزْكَىٰ خَلْقِيَّةِ

اوزیات روینانه دے اوزیات واضحه دے او دیر پاک به مخلوق کنیے

أَخْلَاقًا وَأَظْهَرُهَا وَأَكْرَمُهَا خَلْقًا وَ

به اخلاقوسره او دیره پاکیزه او دیر عزتمند به اعتبار د پیدائش سره

أَعْدَلُهَا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

او دیر درست به هغوی کنیے اے الله رحمت اولیے زمونیر به سردار

مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

محمد باندمی چه نبی امی دے او به آل د سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ الَّذِي هُوَ أَبْهَىٰ مِنَ الْقَمَرِ

محمد باندمی غوک چه زیات بے مخے دے دسپور می پوره شوع نه

التَّائِبِ وَأَكْرَمُ مِنَ السَّحَابِ الْمُرْسَلَةِ

او زیات سخی دے د وریخے لیکلے شوع نه

وَالْبَحْرِ الْخَطْمِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

او دغبت دریاب نه اے الله رحمت او لیے زمونیر به سردار

مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

محمد باندمی چه نبی امی دے او به آل د سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ الَّذِي قَرِنَتْ الْبَرَكَةُ بِذَاتِهِ

محمد باندمی هغه هستی چه تر لے شوع دے برکت دهغوی ذذات سره

وَمُحِبَّاهُ وَتَعَطَّرَتْ الْعَوَالِمُ بِطِيبِ

او دهغوی مخ مبارک سره او خوشبو به شول عالمونه به خوشبوئی

ذِكْرِهِ وَرِيَّاهُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

د ذکر دهغوی سره او دهغوی به خوشبوئی سره اے الله رحمت اولیے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ ۝

زمونیر به سردار محمد باندمی او دهغوی به آل باندمی او سلام او لیے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ

اے الله رحمت او لیے زمونیر به سردار محمد باندمی او به

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

آل د سردار زمونیر محمد باندمی او برکت او لیے زمونیر به سردار

مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد باندے او په آل د سردار زمونږ محمد باندے

وَأَرْحَمَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِ سَيِّدِنَا

اورحم او کره زمونږ په سردار محمد باندے او په آل د سردار زمونږ محمد باندے

مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ

څنگه چه تارحمت لیرے دے او برکت دلځکله دے اورحم ذکرے دے

عَلَىٰ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

زمونږ په سردار ابراهیم باندے او په آل د سردار زمونږ ابراهیم باندے

إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ

بیشکه ته ډیر ستایلے شوم دلونے بزځي خاوندے. اے الله

صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ

رحمت اولیرے زمونږ په سردار محمد باندے چه ستابنده دے

وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَىٰ

او ستا نبی دے او ستا رسول دے چه نبی اُمی دے او په

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

آل د سردار زمونږ محمد باندے. اے الله رحمت اولیرے

عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

زمونږ په سردار محمد باندے او په آل د سردار زمونږ

مُحَمَّدٍ مِلَّةَ الدُّنْيَا وَمِلَّةَ الْآخِرَةِ ۝

محمد باندے په دكوالي د دنیا او په دكوالي د آخرت

وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ

او برکت او لیرے زمونږ په سردار محمد باندے او په آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِلَّةَ الدُّنْيَا وَمِلَّةَ

د سردار زمونږ محمد باندے په دكوالید دنیا او په دكوالي

الْآخِرَةِ ۝ وَأَرْحَمَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا

د آخرت. او رحم او کره زمونږ په سردار محمد باندے

وَآلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِلَّةَ الدُّنْيَا وَ

او زمونږ د سردار محمد په آل باندے په دكوالي د دنیا او

مِلَّ الْأُخْرَةَ ○ وَاجْزِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا

پہ ذکوالی د آخرت . او جز او کہے زمونیر سردار محمد کہ

وَأَلَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ مِلَّ الدُّنْيَا وَمِلَّ

او زمونیر د سردار محمد آل له پہ ذکوالی د دنیا او پہ ذکوالی

الْأُخْرَةَ ○ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

د آخرت او سلام او لیبرے زمونیر پہ سردار محمد باندے

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِلَّ الدُّنْيَا وَ

او زمونیر د سردار محمد پہ آل باندے پہ ذکوالی د دنیا او

مِلَّ الْأُخْرَةَ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

پہ ذکوالی د آخرت . اے اللہ درود او لیبرے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْهِ ○

محمد باندے خشکہ چہ تاحکم کہے دے مونیرتہ درود لیکلو پہ ہفہ باندے

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا يَنْبَغِي

او درود او لیبرے زمونیر پہ سردار محمد باندے خشکہ چہ بنائیری

أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ

درود لیکلو پہ ہفوی باندے . اے اللہ رحمت او لیبرے پہ خیل نبی

الْمُصْطَفَى وَرَسُولِكَ الْمُرْتَضَى وَوَلِيِّكَ

غورہ کہے شوی باندے او پہ خیل برگزیدہ رسول باندے او پہ خیل دوست

الْمُجْتَبَى وَآمِينَكَ عَلَى وَحْيِ السَّمَاءِ ○

غورہ کہے شوی باندے او چہ سنا امین دے د آسمان پہ وحی باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَرِّمِ

اے اللہ رحمت او لیبرے زمونیر پہ سردار محمد باندے چہ ڈیر عزتمند دے

الْأَسْلَافِ الْفَاضِلِينَ بِالْعَدْلِ وَالْإِنصَافِ

پہ مخکنو کنے قائم دے یہ عدل او اسلام باندے

الْمَنْعُوتِ فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ الْمُنْتَخِبِ

صفت کہے شوی دے پہ سورت اعراف کنے انتخاب کہے شوی دے

مِنْ أَصْلَابِ الشَّرَافِ وَالْبَطُونِ

د شاکانو د اشرافو او کلبو

الْخَطَافِ الْمُصَفِّ مِنْ مُصَاحِرِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

صفای پاکیزه و نه خلاصه د خاندان د عبدالمطلب

ابن عَبْدِ مَنَافٍ الَّذِي هَدَيْتَ بِهِ

بن مناف نه هغه هستي چه تا لاره او بنودله دهغه په ذریعه

مِنَ الْخِلَافِ وَبَيَّنْتَ بِهِ سَبِيلَ

دخلاف نه او بیانہ کره تا دهغه په ذریعه لاره

الْعَقَافِ ۞ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَفْضَلِ

د پاکتي. اے الله زه غواړم تانه په وسیله د افضل ترین

مَسْئَلَتِكَ وَبِأَحَبِّ أَسْمَائِكَ إِلَيْكَ وَ

سوال چه تانه کولې شي او په وسیله د محبوب نومونو تانه اوزیات

أَكْرَمِهَا عَلَيْكَ وَبِمَا مَنَنْتَ عَلَيْنَا

عزتمند دهغه تانه اوسره دهغه احسان نه چه تا په مونږ باندې کرې دے

بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

په رالیکلو د سردار زموږ محمد کوم چه زموږ په نبی دے صلی الله علیه

وَسَلَّمَ فَاسْتَنْقَذَ تَنَائِبَهُ مِنَ الصَّلَاةِ وَ

وسلم. نو تانمونږه خلاص کرو دهغه په ذریعه د گمراهی نه او تارانه

أَمَرْتَنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَجَعَلْتَ صَلَاتَنَا

حکم کرې دے د درود نیولو په هغوی باندې او تاگر خولې دے درود

عَلَيْهِ دَرَجَةً وَكَفَّارَةً وَطُفَاءً وَمَنًّا

مونږ په هغه باندې درجه او کفارہ او مهربانی او احسان

مِنْ أَعْطَاكَ فَأَدْعُوكَ تَعْظِيمًا

د خپلو وړکرونه. نوزه دُعا غواړم تانه سره د تعظیم

لَا مَرِكَ وَاتِّبَاعًا لَوْصِيَّتِكَ وَمُنْتَجِزًا


د حکم ستا اوسره د پیروي کولو د وصیت ستا اوسره د وفا کولو

لِمَوْعُودِكَ لِمَا يَجِبُ لِنَبِيِّنَا سَيِّدِنَا

دوعده ستا دپاره دهغه چه واجب دي د پاره د نبی او سردار زموږ

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آدَاءِ

محمد صلی الله علیه وسلم په ادا کولو



حَقُّهُ قَبْلَنَا إِذْ أَمَّنَّا بِهِ وَصَدَّقْنَاهُ وَاتَّبَعْنَا

دحق دھغوی زمونیر دطرفہ حکمہ مونیر ایمان راوہے دے پہ ہغوی بقلہ او مو نیر دھغوی تصدیق کرے دے

التَّوْرَ الَّذِي أَنْزَلَ مَعَهُ وَقُلْتَ وَقَوْلِكَ

او بیروی مو کرے دہ دھغہ نورچہ نازل کرے شو دے ہغوی سرہ او نیلی دی تا او نیاستا

الْحَقُّ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى

حقہ دہ چہ بیشکہ اللہ تعالیٰ او دھغہ فرشتے درود لیگی پہ

النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ

نبی بانلے اے ایمان دارو درود او لیگی پہ ہغہ بانلے

وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝ وَأَمَرَتِ الْعِبَادَ بِالصَّلَاةِ

اوسلام پرے او لیگی ڈیر سلام او حکم ڈکرے دے بندگانو تہ پہ درود لیگیو

عَلَى نَبِيِّهِمْ فَرِيضَةً ۝ افترضتها وأمرتهم

خپل پیغمبر بانلے دا یو فرض دے چہ تافرض کرے دے او حکم ڈکرے دے بندگانو تہ

بِهَا فَانْسئِلْكَ بِجَلَالِ وَجْهِكَ وَتَوْعِظَتِكَ

پہ دے سرہ تو سوال کوؤ تانہ سرہ دجلال د ذات ستا اوسرہ د نور د عظمت ستا

وَمَا أَوْجَبَتْ عَلَى نَفْسِكَ لِلْمُحْسِنِينَ

اوسرہ دھغے چہ واجب کرے دی تا پہ خان خپل دبارہ دنیکانو

أَنْ تُصَلِّيَ أَنْتَ وَمَلَائِكَتُكَ عَلَى سَيِّدِنَا

چہ درود اولیکہ تہ او فرشتے ستا زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ بِنَلِّهِ جِهَ سَتَا بِنَلِّهِ دَعَا أَوْ سَتَانِي دَعَا

محمد بانلے چہ ستا بنلہ دے او ستا رسول دے اوستانی دے

وَصَفِيِّكَ وَخَيْرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ أَفْضَلَ

اوستاغورہ کرے شوے او خوین کرے شوے دے پہ مخلوق ستا کنے

مَا صَلَّيْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ إِنَّكَ

ہغہ غورہ درود چہ تالیکلے دے پہ یو گس بانلے د مخلوق خپل نہ

حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ اللَّهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ

ہیشکہ تہ ڈیر ستانیلے شوے دلویں خاوند نے اے اللہ پور تہ کرے

وَآكْرِمْ مَقَامَهُ وَثَقِّلْ مِيزَانَهُ وَ

در چہ دھغہ او عزتمند کرے مقام دھغہ او دروند کرے میزان دھغہ او

أَبْلَجُ حُجَّتَهُ وَأَظْهَرُ مِلَّتَهُ وَأَجْزَلُ

او رویشانه کہے دلیل دھغہ او ظاہر کہے ملت دھغہ او زیات کہے

ثَوَابُهُ وَأَاضِي نُورُهُ وَأَدْمُ كِرَامَتِهِ

ثواب دھغہ اور رویشانه کہے نور دھغہ او ہمیشہ اولرے کرامت دھغہ

وَالْحَقُّ بِهِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ

او ملاؤ کہے ورسرہ اولاد دھغہ او اہل بیت دھغہ چہ بخے شی

مَا تُقَرُّ بِهِ عَيْنُهُ وَعَظْمُهُ فِي النَّبِيِّنَ

ورسرہ ستر کہے دھغہ او اوچت نے کہے بہ ہغہ پیغمبرانو کہنے کوم

الَّذِينَ خَلَوْا قَبْلَهُ ۝ اللَّهُمَّ اجْعَلْ

چہ تیر شوی دی مخکنے دھغہ نہ؛ اے اللہ او کرخوے زمونبو سردار

سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا أَكْثَرَ النَّبِيِّنَ

محمد زیات پہ تولو پیغمبرانو کہنے پہ اعتبار د پیروی کونکو سرہ

تَبَعًا وَأَكْثَرَهُمْ أَرْسَاءً وَأَفْضَلَهُمْ

او پہ تولو کہنے زیات پہ اعتبار دوزیرانو سرہ او تولو کہنے غورہ

كَرَامَةً وَنُورًا ۝ وَأَعْلَهُمْ دَرَجَةً

بہ اعتبار د کرامت او نور سرہ او پہ تولو کہنے اوچت پہ اعتبار د درجے سرہ

وَأَفْسَحَهُمْ فِي الْجَنَّةِ مَنْزِلًا ۝ اللَّهُمَّ

او ڈیرہ فراخہ ور کہے بہ جنت کہنے مرتبہ اے اللہ

اجْعَلْ فِي السَّابِقِينَ غَابِتَهُ وَفِي لَمْتَخِينِ

او کرخوے پہ مخکنو کہنے غایت دھغہ او پہ منتخب شوؤ کہنے

مَنْزِلَةً ۝ وَفِي الْمُقَرَّبِينَ دَارَهُ وَفِي

مقام دھغہ او پہ مقربانو کہنے کوردھغہ او پہ

الْمُصْطَفَيْنِ مَنْزِلَةً ۝ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ

غورہ کہے شوؤ کہنے مرتبہ دھغہ؛ اے اللہ او کرخوے ہغہ لہ

أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ عِنْدَكَ مَنْزِلًا وَ

ڈیر عزتمند پہ عزتمند و کہنے پہ خیل نزد پہ مرتبہ کہنے

أَفْضَلَهُمْ ثَوَابًا وَأَقْرَبَهُمْ مَجْلِسًا وَ

او غورہ دھغوی نہ پہ ثواب کہنے او زیات نزد دھغوی نہ پہ مجلس کہنے او

اَثْبَتَهُمْ مَقَامًا وَاَصْوَبَهُمْ كَلَامًا وَاَوْزِيَاتٍ مَضْبُوطٍ دَهْفُوئِي نَهْ بِهٖ مَقَامِ كُنِيَةِ اَوْزِيَاتٍ غُورِهٖ دَهْفُوئِي نَهْ سَتَا بِهٖ نَزْدٍ

اَوْزِيَاتٍ مَضْبُوطٍ دَهْفُوئِي نَهْ بِهٖ مَقَامِ كُنِيَةِ اَوْزِيَاتٍ غُورِهٖ دَهْفُوئِي نَهْ سَتَا بِهٖ نَزْدٍ

اَتَجَحَّهٖمْ مَسْئَلَةً وَاَفْضَلَهُمْ لَدَيْكَ

زِيَاةٍ فَتَحْمَنِدُ دَهْفُوئِي نَهْ بِهٖ سَوَالِ كُنِيَةِ اَوْزِيَاتٍ غُورِهٖ دَهْفُوئِي نَهْ سَتَا بِهٖ نَزْدٍ

نَصِيْبًا وَاَعْظَمَهُمْ فَيَمَّا عِنْدَكَ رَغْبَةً

بِهٖ نَصِيْبِ كُنِيَةِ اَوْدِيْرِ لُوْنِي دَهْفُوئِي نَهْ بِهٖ هَفْهٖ شَخْ كُنِيَةِ چِهٖ تَا سَرِهٖ دِي

وَاَنْزَلَهُ فِي عُرْفَاتِ الْفِرْدَوْسِ مِنْ

دَرْغَبَتِ نَهْ اَوْ نَاظِلُ نِي كَرِي بِهٖ دَرْجُو دِ فِرْدَوْسِ كُنِيَةِ دِ

الدَّرَجَاتِ الْعُلَى الَّتِي لَا دَرَجَةَ قَوْقَهَا

اَوْ چِتُو دَرْجُو نَهٗ دِ كُوْمِي نَهٗ بِهٖ سَ چِهٖ بَلَهٗ دَرْجِهٖ نِي شَهٗ

اللَّهُمَّ اجْعَلْ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا اَصْدَقَ

اِي اللّٰهٗ اَوْ مَكْرُخُوْمِي زَمُوْنِيْرِ سِرْدَارِ مُحَمَّدِ دِيْرِ رَشِيْتِي

قَائِلٍ وَّ اَنْجَحَ سَائِلٍ وَّ اَوَّلَ شَافِعٍ

وَيُوْنِكِي اَوْ دِيْرِ فَتَحْمَنِدُ دَهْرُ سَوَالِ كُوْنِكِي نَهٗ اَوْ رُوْمِي شَفَاعَتِ كُوْنِكِي

وَاَفْضَلَ مُشَفِّعٍ وَّ شَفِّعَةٍ فِيْ اُمَّتِهٖ

اَوْ دِيْرِ غُورِهٖ شَفَاعَتِ قَبُوْلِ شُوْمِي اَوْ شَفَاعَتِ قَبُوْلِ كَرِي بِهٖ حَقِّ دَا مَتِ دَهْفِهٖ

بِشَفَاعَةِ يَغِيْبُطِهٖ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ وَاْلَاخِرُوْنَ

كُنِيَةِ دَا سِي شَفَاعَتِ چِهٖ اَوْ پَسَخِيْرِي وَرْتِهٖ اَوْ لَنِي هَمِ اَوْ اَخِرَنِي هَمِ

وَ اِذَا مَيِّزْتَ عِبَادَكَ بِفَضْلِ قَضَائِكَ

اَوْ هَرِ كَلَهٗ چِهٖ جِدَا كَرِي بِنَدِ كَا نِ خِيْلِ بِهٖ فَيَصْلِي دِ حَكْمِ خِيْلِ سِرِهٖ

فَاَجْعَلْ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا اِنْفِيْ لْاَصْدَقِيْنَ

لُو اَوْ مَكْرُخُوْمِي زَمُوْنِيْرِ سِرْدَارِ مُحَمَّدِ بِهٖ دِيْرِ رَشِيْتَا وَيُوْنِكُو كُنِيَةِ

قِيْلًا وَّفِيْ لْاَحْسَنِيْنَ عَمَلًا وَّفِيْ لْمُهْدِيْنَ


اَوْ بِهٖ دِيْرِ بِنَهٗ عَمَلِ كُوْنِكُو كُنِيَةِ اَوْ بِهٖ هِدَايَتِ كَرِي شُوُوْ كُنِيَةِ

سَيِّدًا ۞ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ نَبِيَّنَا لَنَا

بِهٖ دِيْنِ كُنِيَةِ . اِي اللّٰهٗ اَوْ مَكْرُخُوْمِي نَبِيِّ زَمُوْنِيْرِ مُوْنِيْرِ دِ بَا رَهٗ مَخَكُنِيَةِ

قَرَطًا وَّ اجْعَلْ حَوْضَهُ لَنَا مَوْعِدًا

لَهٗ بِنَدُو بَسْتِ كُوْنِكِي اَوْ اَوْ مَكْرُخُوْمِي حَوْضِ دَهْفِهٖ مُوْنِيْرِ دِي بَا رَهٗ خَا نِي دُو عَدَلِي



الحزب الرابع ٢٢٤ ذل الحزب الرابع

مِنْ رُفَقَائِهِ مَعَ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
دهغوی دملکرونه سره دهغه خلقو چه انعام پرے شوے دے دیبغمبرانونه

وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَ
او صدیقانونه او شهیدانونه او صالحانونه او

حَسَنَ أَوْلِيَّكَ رَفِيقًا ۝ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
دبرینه دی دهغه خلق مرکری او تول تعریفونه خاص الله د پاره دی

رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
چه رب د عالمونو دے

أَبْتَدَأُ الرَّبِّعَ الثَّلَاثِ
د دریم ربع ابتدا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ تُوْر
اے الله رحمت او لبرے زمونیر په سردار محمد باندے چه نور

الْهُدَى وَالْقَائِدِ إِلَى الْخَيْرِ وَالِدَّاعِي
دهدایت دے او رابنکونکے دے نیکی طرفته اورابلونکے دے

ذل الحزب الرابع ٢٢٤ الحزب الرابع

لَا وَّلِنَا وَآخِرِنَا ۝ اللَّهُمَّ احْشُرْنَا فِي
زمونیرہ رومبتونچاره اوزمونیرہ روستود پاره اے الله پاسوے مونیرہ پہ دلے دهغوی کنیے

زُمرَتِهِ وَاسْتَعْمِلْنَا فِي سُنَّتِهِ وَتَوَقَّنَا
اومونیرہ استعمال کرے چه طریقے دهغوی کنیے او وفات راکرے مونیرہ دهغه پہ ملت

عَلَى مِلَّتِهِ وَعَرَّفْنَا وَجْهَهُ وَاجْعَلْنَا
بائنے او اوپونلے کرے پہ مونیرہ بائنے مخ دهغوی او دا خل کرے مونیرہ دهغوی پہ

فِي زُمرَتِهِ وَحزْبِهِ ۝ اللَّهُمَّ اجْمَعْ
زمرے اوپہ دلے کنیے اے الله جمع والے او کرے پہ مینخ زمونیر کنیے اوپہ مینخ دهغه

بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ كَمَا آمَنَّا بِهِ وَلَمْ نَرَهُ
کنیے خشکے چه مونیرہ ایمان راورے دے پہ هغه بائنے اولیلے مونہ دے او جلتی مہ

وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ حَتَّى تَدْخُلْنَا
راولے پہ مینخ زمونیرہ او هغه کنیے تردے پورے چه مونیرہ داخل کرے بخترے

مَدْخَلَهُ وَتُوْرِدْنَا حَوْضَهُ وَتَجْعَلْنَا
دداخلیلو دهغه تہ او مونیرہ ورولے دهغوی حوض تہ او مونیرہ او گبرخوے

إِلَى الرَّشْدِ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ

راستوالی طرفتہ نبی درحمت دے امام ذہرہیز نگارانو دے اورسول درب

وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا تَبَى بَعْدَهُ

العالمین دے نیشته ہیخ پیغمبر ہغوی نہ پس خنگہ چہ راستولے نے

كَمَا بَلَغَ رِسَالَتَكَ وَتَصَمَّ لِعِبَادِكَ وَتَلَا

دے پیغام ستاوخیر خواہی نے کرے دہ بندگانو ستااولوستی نے دی

آيَاتِكَ وَأَقَامَ حُدُودَكَ وَوَفَّى بِعَهْدِكَ

آیتونہ ستاواقائم کری نے دی حدونہ ستا اوپورہ کرے نے دے لوظ ستا

وَأَنْفَذَ حُكْمَكَ وَأَمَرَ بِطَاعَتِكَ وَنَهَى

اونافذ کرے نے دے حکم ستاوحکم نے کرے دے طاعت ستاومنع نے

عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَوَالِي وَلِيِّكَ الَّذِي

کرے دے دنافرمانی ستانہ اودوستی نے کرے دہ ستاھفہ دوست سرہ چہ

تُحِبُّ أَنْ تُوَالِيَهُ وَعَادَى عَدُوَّكَ الَّذِي

خوبنوں تہ دوستی کول ہفہ سرہ اودشمنی نے کرے دہ ستاھفہ دینمن سرہ

تُحِبُّ أَنْ تُعَادِيَهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا

چہ تہ خوبنوں دشمنی کول ہفہ سرہ اورحمت دینازل کری اللہ تعالیٰ زمونیر

مُحَمَّدٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَسَدِهِ

بہ سردارمحمد باندے . اے اللہ رحمت او لیرے بہ بدن دھغوی

فِي الْأَجْسَادِ وَعَلَى رُوحِهِ فِي الْأَرْوَاحِ

بہ بدنونو کینے او بہ روح دھغوی بہ رحونو کینے

وَعَلَى مَوَاقِفِهِ فِي الْمَوَاقِفِ وَعَلَى

اوپہ خانے درودریدلو دھغوی بہ حانیونو دودریدلو کینے اوپہ

مَشَاهِدِهِ فِي الْمَشَاهِدِ وَعَلَى ذِكْرِهِ

خانے دحاضریدلو دھغوی بہ خایونو دحاضریدلو کینے اوپہ ذکر دھغوی

إِذَا ذُكِرَ صَلَوةٌ مِنَّا عَلَى نَبِيِّنَا ۝

کلہ چہ ذکر کرے شی درود زمونیر دطرفنہ زمونیر پہ نبی باندے

اللَّهُمَّ أْبْلِغْهُ مِنَ السَّلَامِ كَمَا ذُكِرَ

اے اللہ ورتہ اورسوں زمونیر دطرفنہ سلام خنگہ چہ ذکر شومے دے

السَّلَامُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ

سلام او سلام دوي به نبي باندے او رحمت

اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ

دالله او برکتونه دهغه. اے الله رحمت او لیبے

عَلَى مَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى أَنْبِيَائِكَ

به خپلو مقربو فرشتو باندے او په خپلو پیغمبرانو باندے

الْمُطَهَّرِينَ وَعَلَى رُسُلِكَ الْمُرْسَلِينَ

چه پاکیزه دي او په خپلو لیکلو شوؤ رسولانو باندے

وَعَلَى حَمَلَةِ عَرْشِكَ وَعَلَى سَيِّدِنَا

او په او چتونکو دعرش ستا باندے او زمونږ په سردار

جَبْرِئِيلَ وَسَيِّدِنَا مِيكَائِيلَ وَسَيِّدِنَا

جبرئیل باندے او زمونږ په سردار میکائیل باندے او زمونږ په سردار

إِسْرَافِيلَ وَسَيِّدِنَا مَلِكِ الْمَوْتِ وَ

اسرافیل باندے او زمونږ په سردار ملک الموت باندے او

سَيِّدِنَا رِضْوَانَ خَازِنِ جَنَّتِكَ وَسَيِّدِنَا

زمونږ په سردار رضوان دجنت نگهبان باندے او زمونږ په سردار

مَالِكٍ وَصَلِّ عَلَى الْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ

مالک باندے او رحمت اولیبے په کراما کاتبین باندے

وَصَلِّ عَلَى أَهْلِ طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ

او رحمت اولیکے په خپلو تابعدارو ټولو باندے

مِنَ أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ ○

د آسمانونو او سیدونکو نه او دزمکو او سیدونکونه

اللَّهُمَّ رَاتِ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكَ أَفْضَلَ

اے الله ورکړے دخپل نبي اهل بیتو ته ډیر غوره دهغه څه نه

مَا آتَيْتَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِ

چه تا ورکړي دي یوکس ته داهل بیتو

الْمُرْسَلِينَ وَأَجْزَأَ أَصْحَابِ نَبِيِّكَ

د رسولونو نه او جزا ورکړے اصحابو د نبي خپل ته

أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ

زیاتہ غورہ دھغے نہ چہ تا جز اور کرے دہ یوکس تہ داصحابو

الْمُرْسَلِينَ ○ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ

درسولانوںہ اے اللہ بخینہ او کرے مومنانو و سروتہ

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

او مومنانو بنخوتہ او مسلمانانو سروتہ او مسلمانانو بنخوتہ

الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ ○ وَاعْفِرْ لَنَا

کوم چہ ژوندی دی دھغونہ او کوم چہ مرہ دی او بخینہ او کرے مونیترہ

وَأَخْوَانَنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ

اوز مونیترہ ہغہ رونروتہ چہ مونیترہ مخکنے تیرشوی دی پہ ایمان سرہ

وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا

او مہ ساتے زمونیترہ پہ زرونو کننے کینہ د بارہ دمومنانو

رَبَّنَا إِنَّكَ رءُوفٌ رَحِيمٌ ○ اللَّهُمَّ

اے ربہ زمونیترہ بیشکہ تہ دیر مہربان دیر رحم کونکے نے اے اللہ

صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ الْهَاشِمِيِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

رحمت او لیجے پہ نبی ہاشمی زمونیترہ پہ سردار محمد باندے

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا ○

اودھغوی پہ آل باندے او پہ اصحابو باندے او سلام پرے او لیجے دیر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ

اے اللہ رحمت اولیجے زمونیترہ پہ سردار محمد باندے شوک چہ بہتر دے

الْبَرِيَّةِ صَلَوةً تُرْضِيكَ وَتُرْضِيهِ وَ

پہ مخلوق کننے داسے رحمت چہ راضی کرے تالرہ اوراضی کرے تہ ہغہ

تُرْضِيَهُمَا عَنَّا يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ ○

لرہ او چہ راضی شے پہ ہغہ سرہ زمونیترہ اے دھرچانہ زیات رحم کونکے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ رحمت او لیجے زمونیترہ پہ سردار محمد باندے او

عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا

دھغوی پہ آل او اصحابو باندے او سلام او لیجے دیر دیر سلام

طَيْبًا مُّبْرَكًا فِيهِ جَزِيلًا جَمِيلًا دَائِمًا

چه پاک وي برکت ورکړه شوه وي په هغه کېږي او بڼکله وي

يَدَاوَامِ مُلْكِ اللَّهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

هميشه وي په هميشه والي د حکومت د الله اے الله رحمت او ليرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَوَلَدِهِ

زمونږ په سردار محمد باندې او دهغوئ په آل باندې په د کوالي

الْفُضَاءِ وَعَدَدَ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ

د فضا باندې او په شمار دستور د اسمان

صَلْوَةً تُوَازِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

داسه رحمت چه وزن لري د اسمانونو او د زمکې

وَعَدَدَ مَا خَلَقْتَ وَمَا أَنْتَ خَالِقُهُ

او په شمار دهغه څه چه تا پيدا کړي دي او څه چه ته پيدا کونکې ئے

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

د قيامت تر ورځنې پورے اے الله رحمت او ليرے په

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سردار زمونږ محمد باندې او په آل د سردار زمونږ محمد باندې

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارَكْتَ

څنگه چه تارحمت کړې دے زمونږ په سردار ابراهيم باندې او برکت او

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

ليرے زمونږ په سردار محمد باندې او زمونږ د سردار محمد په آل

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا

باندې څنگه چه تا برکت ليكلې دے زمونږ په سردار

إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ

ابراهيم باندې او په آل د سردار زمونږ ابراهيم باندې

فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝

په عالمونو کېږي بيشکه چه ته ډير ستايلې شوه ئے د بزرگي والا ئے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ

اے الله زه غواړم تانه معافي او عافيت

فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ○

به دين كنيے او په دنيا كنيے او په آخرت كنيے

ثَلَاثًا ○ اَللّٰهُمَّ اسْتُرْنَا بِسِتْرِكَ

درې ځل داواني. اے الله پرده واچوې په مونږ باندې په نېټې پردي

الْجَمِيْلِ ○ ثَلَاثًا ○ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ

عجلې سره (درې ځل داواني) اے الله زه غواړم تانه

بِحَقِّكَ الْعَظِيْمِ وَبِحَقِّ نُورِ وَجْهِكَ

په لوی حق ستا او په حق د نور دذات

الْكَرِيْمِ وَبِحَقِّ عَرْشِكَ الْعَظِيْمِ

عزتمند ستا او په حق د عرش عظيم ستا

وَبِمَا حَمَلَ كُرْسِيِّكَ مِنْ عَظَمَتِكَ

او په هغه چا سره چه او چته كړې ئې ده كرسې ستا د عظمت ستانه

وَجَلَالِكَ وَجَمَالِكَ وَبِهَائِكَ

او د جلال ستانه او د جمال ستانه او د خوبی ستانه

وَقُدْرَتِكَ وَسُلْطَانِكَ وَبِحَقِّ اَسْمَائِكَ

او د قدرت ستا نه او د غلبې ستانه او په حق دنومونو ستا

الْمَخْرُوْنَةِ الْمَكْنُوْنَةِ الَّتِي لَمْ يَطْلِعْ عَلَيْهَا

كوم چه خزانه شوي او پټ دي كومو باندې چه خبردار نه دي

اَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ ○ اَللّٰهُمَّ وَاسْئَلُكَ

هڅ څوك دمخلوق ستانه. اے الله او سوال كوم تانه

بِاِسْمِ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى الْبَيْلِ فَاطْلَمَ

په وسيله دهغه نوم ستا چه تاكيڅو د لويه شپه باندې نو ثياره شوه

وَعَلَى النَّهَارِ فَاسْتَنَارَ وَعَلَى السَّمَوَاتِ

او په ورځ د كيڅو دنور روښانه شوه او په آسمانو باندې

فَاسْتَقَلَّتْ ○ وَعَلَى الْاَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ

نو قائم شول او په زمكه باندې نو حصاره شوه

وَعَلَى الْاِحْبَالِ فَارْسَتْ وَعَلَى الْبِحَارِ

او په غرونو باندې نو مضبوط شول او په درياونو باندې

وَالْأُودِيَّةِ فَجَرَّتْ ۝ وَعَلَى الْعِيُونِ

اوپه خورزو بانده نو جاري شول او په چينو بانده

فَنَبَعَتْ ۝ وَعَلَى السَّحَابِ فَأَمْطَرَتْ ۝

نوراؤ خوتكيدې او په ورنجو بانده نو اووريرې

وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ

اوسوال كوم تانه اے الله شتا په هغه نومونوسره كوم چه ليكلي شوي دي

فِي جَهَّةِ سَيِّدِنَا إِسْرَافِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

په تندي د سردار زمونږ اسرافيل عليه السلام

وَبِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَهَّةِ سَيِّدِنَا

او په هغه نومونوسره چه ليكلي شوي دي په تندي د سردار زمونږ

جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلَى لِمَلِكِكَةَ

جبرئيل عليه السلام او سلام دوي په ملائكو

الْمُقَرَّبِينَ ۝ وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِالْأَسْمَاءِ

مقربينو بانده. او سوال كوم تانه په وسيله دهغه نومونوسره

الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ وَبِالْأَسْمَاءِ

چه ليكلي شوي دي چا پيره دعرش نه او په هغه نومونوسره

الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْكُرْسِيِّ وَأَسْأَلُكَ

چه ليكلې شوي دي چا پيره دكرسي نه، او سوال كوم تانه

اللَّهُمَّ بِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى وَرَقِ

اے الله دهغه نوم په وسيله سره چه ليكلې شوي دي په پاڼه

الرِّيْتُونِ ۝ وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِالْأَسْمَاءِ

دريتون بانده. اوسوال كوم تانه اے الله په وسيله دهغه نومونوسره

الْعِظَامِ الَّتِي سَمَّيْتَ بِهَا نَفْسَكَ مَا

چه عظيم دي كوم چه تا ايخولي دي په خپل خان بانده كوم چه

عَلِمْتَ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ۝

ماته معلوم دي او كوم چه ماته نه دي معلوم.

الْحَزْبُ الْخَامِسُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ
پنجم حزب دجمعہ دو رخص

وَاسْأَلْكَ اللَّهُمَّ يَا أَسْمَاءَ الْعِظَامِ الَّتِي
او سوال كوم تانه اے اللہ پہ وسیلے دھغے خچلو عظیمو نومونو سره

سَمَّيْتَ بِهَا نَفْسَكَ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَ
كوم چه تا ايخي دي په خان خچل كوم چه ماته معلوم دي او

مَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ يَا أَسْمَاءَ
كوم چه ماته نه دي معلوم. او سوال كوم تانه اے اللہ پہ وسیلے دھغے نومونو

الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَادِمٍ عَلَيْهِ
سره چه رابللے نے په هغه سره زمونيره سردار آدم عليه السلام

السَّلَامُ ○ وَيَا أَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ
او په وسیلے دھغه نومونو سره چه ته رابللے نے

بِهَا سَيِّدُ نَادِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَ
په هغه سره زمونير سردار نوح عليه السلام. او

بِأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا
په وسیلے دھغے نومونو سره چه ته رابللے نے په هغه سره زمونير سردار

هُودٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا أَسْمَاءَ الَّتِي
هود عليه السلام او په وسیلے دھغے نومونو سره چه

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا اِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○
رابللے نے ته په هغه سره زمونيره سردار ابراهيم عليه السلام

وَيَا أَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا
او په وسیلے دھغه نومونو سره چه ته رابللے نے په هغه سره زمونير سردار

صَالِحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا أَسْمَاءَ الَّتِي
صالح عليه السلام او په وسیلے دھغے نومونو سره

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○
چه رابللے نے ته په هغه سره زمونيره سردار يونس عليه السلام

وَيَا أَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا
او په وسیلے دھغے نومونو سره چه رابللے نے ته په هغه سره زمونيره سردار

أَيُّوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا لَأَسْمَاءَ الَّتِي

ایوب علیه السلام. او په وسیله دهغه نومونو چه

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَاعِقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○

دعا غوښته ده تانه په هغه سره زمونږه سردار یعقوب علیه السلام

وَيَا لَأَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَايُوسُفُ

اوپه وسیله دهغه نومونوسره چه دعاغوښته ده تانه په هغه سره زمونږ

عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا لَأَسْمَاءَ الَّتِي

سرداریوسف علیه السلام. او په وسیله دهغه نومونو سره چه

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ○

دعا غوښته ده تانه په هغه سره زمونږ سردار موسی علیه السلام

وَيَا لَأَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا

اوپه وسیله دهغه نومونوسره چه دعاغوښته ده تانه په هغه سره زمونږ

هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا لَأَسْمَاءَ

سردارهارون علیه السلام. او په وسیله دهغه نومونو سره

الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا شُعَيْبُ عَلَيْهِ

چه دعا غوښته ده تانه په هغه سره زمونږ سردار شعيب علیه السلام

السَّلَامُ ○ وَيَا لَأَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ

اوپه وسیله دهغه نومونو سره چه دعا غوښته ده تانه په هغه سره

بِهَا سَيِّدُ نَا إِسْمَاعِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○

زمونږ سردار اسماعیل علیه السلام

وَيَا لَأَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا

اوپه وسیله دهغه نومونوسره چه دعاغوښته ده تانه په هغه سره زمونږ

دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا لَأَسْمَاءَ الَّتِي

سردار داؤد علیه السلام. او په وسیله دهغه نومونو سره

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ

چه دعاغوښته ده تانه په هغه سره زمونږه سردار سلیمان علیه السلام

السَّلَامُ ○ وَيَا لَأَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ

او په وسیله دهغه نومونو سره چه دعاغوښته ده تانه

بِهَاسِيْدُ نَا زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ ○

به هغه سره زمونږه سردار زكريا عليه السلام

وَ بِاَلْاَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَاسِيْدُ نَا

اوپه وسيله دهغه نومونوسره چه دعاغوښته ده تانه په هغه سره زمونږه

يَجِيْ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَ بِاَلْاَسْمَاءِ الَّتِي

سردار يحيى عليه السلام. او په وسيله دهغه نومونو سره چه

دَعَاكَ بِهَاسِيْدُ نَا اَرْمِيَاءُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○

دعاغوښته ده تانه په هغه سره زمونږه سردار ارمياء عليه السلام

وَ بِاَلْاَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَاسِيْدُ نَا

اوپه وسيله دهغه نومونوسره چه دعاغوښته ده تانه په هغه سره زمونږه

شُعْبَاءُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَ بِاَلْاَسْمَاءِ الَّتِي

سردار شعبا عليه السلام. او په وسيله دهغه نومونوسره چه

دَعَاكَ بِهَاسِيْدُ نَا الْيَاسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○

دعاغوښته ده تانه په هغه سره زمونږه سردار الياس عليه السلام

وَ بِاَلْاَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَاسِيْدُ نَا الْيَسَعَ

اوپه وسيله دهغه نومونوسره چه دعاغوښته ده تانه په هغه سره زمونږه

عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَ بِاَلْاَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ

سردار يسع عليه السلام. او په وسيله دهغه نومونوسره چه دعاغوښته

بِهَاسِيْدُ نَا ذُو الْكِفْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○

ده تانه په هغه سره زمونږه سردار ذوالكفل عليه السلام. او په

وَ بِاَلْاَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَاسِيْدُ نَا

وسيله دهغه نومونوسره چه دعاغوښته ده تانه په هغه سره زمونږه سردار

يُوشَعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَ بِاَلْاَسْمَاءِ الَّتِي

يوشع عليه السلام. او په وسيله دهغه نومونو سره چه

دَعَاكَ بِهَاسِيْدُ نَا عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ

دعاغوښته ده تانه په هغه سره زمونږه سردار عيسى بن مريم عليه

السَّلَامُ ○ وَ بِاَلْاَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَاسِيْدُ

السلام او په وسيله دهغه نومونوسره چه دعاغوښته ده تانه په هغه سره

دَلَالَةُ الْغَيْبَاتِ ٢٢٢ الْجُزْءُ الْخَامِسُ

سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 سردار زمونير محمد صلي الله عليه وسلم

وَعَلَىٰ جَمِيعِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ أَنْ
 او رحمت دوي په ټولو نبيانو او رسولا نوباندې داچه

تُصَلِّيَ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ عَدَدَ
 رحمت اوليرې زمونير په سردار محمد خپل نبي باندې په شمار

مَا خَلَقْتَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكُونَ السَّمَاءُ
 دهغه چه تا هغه پيدا كړې دې مخكې دده نه چه وواسمان

مَبْنِيَّةً وَالْأَرْضُ مَدْحِيَّةً وَالْجِبَالُ
 جوړكړې شوم اوزمكه غوړولې شوم اوغرونه

مُرْسَاةً وَالْبِحَارُ مُجْرَاةً وَالْعُيُونُ
 برابر كړې شوي اودريابونه جاري كړې شوي اوچينه بهيولې شوم

مُنْفَجِرَةً وَالْأَنْهَارُ مِنْهَمِرَةً وَالشَّمْسُ
 او نهرونه روان شوي او نمر

دَلَالَةُ الْغَيْبَاتِ ٢٢٤ الْجُزْءُ الْخَامِسُ

مُضِيَّةً وَالْقَمَرُ مُضِيًّا وَالْكَوَاكِبُ
 روپسانه شوم اوسپوړمى رڼا كونكې او ستوري

مُسْتَنِيرَةً كُنْتَ حَيْثُ كُنْتَ لَا يَعْلَمُ
 خليفونكي. وې ته چرته چه وې نه وه معلومه


أَحَدٌ حَيْثُ كُنْتَ إِلَّا أَنْتَ وَحَدَاكَ لَا
 هيچاته چه كوم ځانې وې ته، سوا دستانه ته ايكي يوڼې

شَرِيكَ لَكَ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
 نېشته هيڅوك شريك ستا. اې الله رحمت اوليرې په

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ حِلْمِكَ ۝ وَ
 سردار زمونير محمد باندې په شمار د حلم خپل او

صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ عِلْمِكَ ۝
 رحمت او ليرې زمونير په سردار محمد باندې په شمار د علم خپل

وَصَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كَلِمَاتِكَ ۝
 اورحمت اوليرې په سردار زمونير محمد باندې په شمار د كلماتو خپل



وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عِدَّةَ نِعْمَتِكَ

اور رحمت اولیہیے زمونیرہ سردار محمد باندے پہ شمار دنعمتونو خیلو

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَلَّ سَمَوَاتِكَ

اور رحمت اولیہیے پہ سردار زمونیر محمد باندے پہ دکوالی دآسمانونو خیلو

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَلَّ أَرْضِكَ

اور رحمت اولیہیے پہ سردار زمونیر محمد باندے پہ دکوالی دزمکے خیلو

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قَلَّ عَرْشِكَ

اور رحمت اولیہیے زمونیرہ سردار محمد باندے پہ دکوالی دعرش خیلو

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ زِنَةَ عَرْشِكَ

اور رحمت اولیہیے زمونیرہ سردار محمد باندے پہ وزن دعرش خیلو

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عِدَّةَ مَا جَرَى

اور رحمت اولیہیے زمونیرہ سردار محمد باندے پہ شمار دھغے چہ جاری شوے دے

بِهِ الْقَلَمُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ وَصَلِّ عَلَى

ور باندے قلم پہ لوح محفوظ کنیے اور رحمت اولیہیے زمونیرہ سردار

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عِدَّةَ مَا خَلَقْتَ فِي

محمد باندے پہ شمار دھغہ مخلوق چہ تا پیدا کرے دے پہ خیلو

سَبْعِ سَمَوَاتِكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اور آسمانونو کنیے. اور رحمت اولیہیے زمونیرہ سردار

مُحَمَّدٍ عِدَّةَ مَا أَنْتَ خَالِقٌ فِيهِنَّ

محمد باندے پہ شمار دھغہ مخلوق چہ تہ نے پیدا کونکرے نے پہ دوی کنیے

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

دقیامت ترورخے پورے پہ ہرہ ورخ کنیے زرخلے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عِدَّةَ

اور رحمت اولیہیے زمونیرہ سردار محمد باندے پہ شمار

كُلِّ قَطْرَةٍ قَطَرَتْ مِنْ سَمَوَاتِكَ إِلَى

دھر شاخکی چہ وریدلے دے ستا داسمانونو ستا

أَرْضِكَ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى

زمکے تہ دکومے ورخ نہ چہ تا دنیا پیدا کرے دہ دقیامت

يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ○
تورخ ہورے بہ ہرہ ورخ کنے زرخلے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ
او رحمت او لیبرے زمونیر بہ سردار محمد باندمے بہ شمار

مَنْ يُسَبِّحُكَ وَيُهَلِّلُكَ وَيُكَبِّرُكَ وَ
دهغه چا چه ستا تسبیح وانی او ستا تهلیل وانی او ستا تکبیر وانی او

يُعَظِّمُكَ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى
ستا تعظیم کوی دکومے ورخ نہ چه تا دنیا پیدا کرے ده د قیامت

يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ○
تر ورخ ہورے بہ ہرہ ورخ کنے زرخلے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ
او رحمت او لیبرے زمونیر بہ سردار محمد باندمے بہ شمار

أَنْفُسِهِمْ وَأَلْفَظِهِمْ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا
دساہ گانو دھغوی اود الفاظ دھغوی اور رحمت اولیبرے زمونیر بہ سردار

مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ نَسَمَةٍ خَلَقْتَهَا فِيهِمْ
محمد باندمے بہ شمار دھروح چه تا پیدا کرے دے بہ دونی کنے

مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
دکومے ورخ نہ چه تا پیدا کرے ده دنیا د قیامت تر ورخ ہورے

فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ
بہ ہرہ ورخ کنے زرخلے. اے اللہ رحمت نازل کرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ السَّحَابِ
زمونیر بہ سردار محمد باندمے بہ شمار دوریخو

الْجَارِيَةِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
چه منبرے وہی. او رحمت نازل کرے زمونیر بہ سردار محمد باندمے

عَدَدَ الرِّيحِ الذَّارِيَةِ مِنْ يَوْمٍ
بہ شمار دھواگمانو چه چلن کوی دکومے ورخ نہ چه تا

خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ
دنیا پیدا کرے ده د قیامت تر ورخ ہورے بہ ہرہ ورخ کنے

يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

زرخلیے اے اللہ رحمت اولیہے زمونیر پہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ هَبَّتْ عَلَيْهِ

سردار محمد باندمے پہ شمار دھغہ خیزونوچہ چلیبری ورباندمے

الرِّيَّاحُ وَحَرَكَتُهُ مِنَ الْأَغْصَانِ

ھواگانے او حرکت نے ورکھے دے ورلہ دخانکونہ

وَالْأَشْجَارِ وَالْأَوْرَاقِ وَالنِّمَارِ وَجَمِيعِ

او ذ اونونہ او دہانپونہ او دمیوونہ اوتول ہغہ خہ

مَا خَلَقْتَ عَلَى أَرْضِكَ وَمَا بَيْنَ سَمَوَاتِكَ

چہ تا پیدا کړي دي په خپله زمکہ باندمے اوپہ مینخ داسمانونو خپلو کینے

مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

دکومے ورخ نہ چہ تا پیدا کړے دہ دنیا د قیامت تر ورخ پورے

فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

پہ ھرہ ورخ کینے زرخلے اے اللہ رحمت اولیہے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ

زمونیر پہ سردار محمد باندمے پہ شمار دسورو د آسمان

مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

دکومے ورخ نہ چہ تا پیدا کړے دہ دنیا د قیامت تر ورخ پورے

فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

پہ ھرہ ورخ کینے زرخلے اے اللہ رحمت اولیہے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِثْلَ أَرْضِكَ وَمَا

زمونیر پہ سردار محمد باندمے پہ د کوالی د زمکے خپله کوم چہ ہغے

حَمَلَتْ وَأَقَلَّتْ مِنْ قُدْرَتِكَ ۝

پورته کړي دي او برداشت کړي نے دي ستا په قدرت سره

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

اے اللہ رحمت او لیہے زمونیر پہ سردار محمد باندمے پہ شمار دھغے

مَا خَلَقْتَ فِي سَبْعِ بَحَارِكَ وَمَا لَا يَبْعَلُهُ

چہ تا پیدا کړي دي په اوو دریا بونو خپلو کینے د کوموچہ علم نیشته

عِلْمَهُ إِلَّا أَنْتَ وَمَا أَنْتَ خَالِقُهُ فِيهَا

مکرتاته دے او دکوموچہ تہ پیدا کونکے نے پہ دے کنے

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ○

دقیامت ترورخ ہورے پہ ہرہ ورخ کنے زرخلے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

اے اللہ رحمت اولیہے زمونیر پہ سردار محمد باندمے پہ شمار

مِائَةِ سَبْعِينَ بِحَارِكِ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

دہکوالی داوود دریاہونو ستا او رحمت او لیہے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ زِنَةَ سَبْعِينَ بِحَارِكِ هَذَا حَمَلَتْ

محمد باندمے پہ وزن داود دریاہونو ستا ہفہ خیزونوسرہ چہ اوچت کرے

وَأَقَلَّتْ مِنْ قُدْرَتِكَ ○ اللَّهُمَّ وَصَلِّ

نے دی او برداشت کری نے دی دقدرت ستانہ اے اللہ اور رحمت اولیہے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَمْوَاجِ بِحَارِكِ

زمونیر پہ سردار محمد باندمے پہ شمار دچہو د دریاہونو ستا

مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

دکومے ورخ نہ چہ تا پیدا کرے دہ دنیا دقیامت ترورخ ہورے

فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ○ اللَّهُمَّ وَصَلِّ

پہ ہرہ ورخ کنے زرخلے اے اللہ او رحمت اولیہے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرَّمْلِ الْخَصْ

زمونیر پہ سردار محمد باندمے پہ شمار دشکو او د کوت کانرو

فِي مُسْتَقَرِّ الْأَرْضِينَ وَسَهْلِهَا وَجِبَالِهَا

پہ خانے دقرار دزمکواو دنرے حصے دھے او دغرینے حصے دھے

مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

دکومے ورخ نہ چہ تا دنیا پیدا کرے دہ دنیا دقیامت ترورخ ہورے

فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ○ اللَّهُمَّ

پہ ہرہ ورخ کنے زرخلے اے اللہ

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ إِصْطِرَاطِ

اور رحمت اولیہے زمونیر پہ سردار محمد باندمے پہ شمار د خوکیدلو

الْمِيَاهِ الْعَذْبَةِ وَالْمِلْحَةِ مِنْ يَوْمٍ

دخورد او بو او ذ مالکینو او بو ذ کومے ورخ نه چه تا

خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ

بیدا کرے ده دنیا ذ قیامت ترورخ پورے به هره

يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ورخ کنے زرخلے او رحمت او لیرے زمونیر به سردار

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَهُ عَلَى جَدِيدِ

محمد بانده به شمار دهغو چه تا پیدا کرے دی به مخ دزمکه خچله

أَرْضِكَ فِي مُسْتَقَرِّ الْأَرْضِينَ شَرْقِيَّهَا

به مینخ ذ محائے قرار دزمکو دهغه دمشرق

وَعَرْبِيَّهَا وَسَهْلِيَّهَا وَجِبَالِيَّهَا وَأَوْدِيَّيَّهَا

اودهغه دمغرب اودهغه دهمارے حصے اودغریزے حصے او دهغه

وَطَرِيقِيَّهَا وَعَامِرِيَّهَا وَغَامِرِيَّهَا إِلَى

دخوردونواو ذلارو اودهغه دآبادے حصے او دشارے حصے تر هغه

سَائِرِ مَا خَلَقْتَهُ عَلَيْهَا وَمَا فِيهَا مِنْ

شیزونو پورے چه تا پیدا کرے دی به دے بانده اوخه چه به دے کنے

حِصَاةٍ وَمَدْرٍ وَحَاجِرٍ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ

دی ذکوت کانرونه اودلو تونه اودکانرونه ذکومے ورخ نه چه تا پیدا کرے ده

الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ

دنیا د قیامت ترورخ پورے به هره ورخ کنے

أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

زرخلے اے الله رحمت او لیرے زمونیر به سردار

مُحَمَّدِ النَّبِيِّ عَدَدَ نَبَاتِ الْأَرْضِ

محمد نبی بانده به شمار د شینکو دزمکه

مِنْ قِبَلَتِهَا وَشَرْقِيَّهَا وَعَرْبِيَّهَا وَسَهْلِيَّهَا

دقبلے دهغه زنه اودمشرق دهغه نه اودمغرب دهغه نه اودهمارے دهغه نه

وَجِبَالِيَّهَا وَأَوْدِيَّيَّهَا وَأَشْجَارِيَّهَا وَ

او ذ شریزے دهغه نه او ذخوردونو دهغه نه اوداونو دهغه نه او

ثَمَارِهَا وَأَوْرَاقِهَا وَزُرُوعِهَا وَجَمِيعِ

دميوؤدهغه نه او ذبانهو دهغه نه او دفضلونو دهغه نه او دتولو هغه خيزونونه

مَا يَخْرُجُ مِنْ تَبَاتِيهَا وَبَرَكَاتِهَا مِنْ

چه راؤخي د شينكو دهغه نه او ذبركتونو دهغه نه دكومے ورخ نه

يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي

چه تا دنيا پيدا كرمے ده د قيامت تر ورخے پورے به

كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ وَصَلِّ

هره ورخ كنيے زرخلے. اے الله او رحمت او لبرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ

زمونبر به سردار محمد باندي به شمار دهغه چه تا پيدا كري دي

مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالشَّيَاطِينِ وَمَا

دپيريانونه او دانسانانونه او دشيطانانونه او شه چه ته

أَنْتَ خَالِقُهُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي

پيدا كونكے نے دهغوی نه د قيامت ترورخ پورے به

كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ وَصَلِّ

هره ورخ كنيے زرخلے. اے الله او رحمت او لبرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ شَعْرَةٍ

زمونبر به سردار محمد باندي به شمار دهریو و پسته به

فِي أَيْدِيهِمْ وَفِي وُجُوهِهِمْ وَعَلَى رُءُوسِهِمْ

بلونونو دهغوی كنيے او په مخونو دهغوی كنيے او په سرونو دهغوی كنيے

مُنْذُ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي

دكله راسے چه تا دنيا پيدا كرمے ده د قيامت ترورخ پورے به

كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى

هره ورخ كنيے زرخلے. اے الله او رحمت اولبرے به

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ خَفَقَاتِ الطَّيْرِ

سردار زمونبر محمد باندي به شمار ذ خانگونو خوزولو دمار غانو

وَطَيْرَانِ الْجِنِّ وَالشَّيَاطِينِ مِنْ يَوْمِ

او ذالو تلو دپيريانو او دشيطانانو ذكومے ورخ نه چه

خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ

تا دنیا پیدا کرے وہ د قیامت ترورخ پورے پہ ہرہ

يَوْمِ أَلْفِ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى

ورخ کنے رخلے۔ اے اللہ او رحمت او لیرے زمونیر پہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ نَبِيٍّ خَلَقْتَهَا

سردار محمد بانڈے پہ شمار دھر غناورچہ تا پیدا کرے دے

عَلَى جَدِيدِ أَرْضِكَ مِنْ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ

پہ مخ دزمکے خیلے کہ ورکو تے وی او کہ لونے وی

فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا مِنْ

پہ مشرقونو دزمکے کنے او پہ مغربونو دھے کنے دبنیاد مونہ

أَنْسِهَا وَجَنَاحِهَا وَمِمَّا لَا يَعْلَمُ عِلْمَهُ إِلَّا

او ڈ پیریانونہ او دھغہ غیزونونہ چہ نیشہ معلومات دھے مگر

أَنْتَ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ

تاکہ د کومے ورخ نہ چہ تا دنیا پیدا کرے وہ د قیامت ترورخ پورے

الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ

پہ ہرہ ورخ کنے زرخلے۔ اے اللہ

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ خَطَايَاهُمْ

اورحمت اولیرے زمونیر پہ سردار محمد بانڈے پہ شمار دقدمونو دھغوی

عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ

دزمکے پہ مخ بانڈے د کومے ورخ نہ چہ تا دنیا پیدا کرے وہ

الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ

د قیامت ترورخ پورے پہ ہرہ ورخ کنے زرخلے۔

مَرَّةٍ ۝ اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اے اللہ او رحمت او لیرے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ ۝ وَ

محمد بانڈے پہ شمار دھغہ چاچہ درود لیری پہ ہغہ بانڈے۔ او

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بَعْدَ مَنْ

رحمت او لیرے زمونیر پہ سردار محمد بانڈے پہ شمار دھغہ چا

لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

چہ درود نے نہ دے لیکلے پہ ہغوی باندے . اور رحمت اولییرے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْقَطْرِ وَالْمَطَرِ وَالنَّبَاتِ

محمد باندے پہ شمار دشاخکو او د باران او د شینکو

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدِ كَلْبٍ

او رحمت اولییرے زمونیر پہ سردار محمد باندے پہ شمار دتولو

شَيْءٍ ۝ اَللّٰهُمَّ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

خیزونو . اے اللہ او رحمت اولییرے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ فِي الْبَيْتِ اِذَا اَيْغَشَ ۝ وَصَلِّ

محمد باندے پہ شہہ کنے چہ کلہ راخوره شی اور رحمت اولییرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي التَّهَارِ اِذَا

زمونیر پہ سردار محمد باندے پہ ورخ کنے کلہ چہ

تَجَلَّى ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي

اوخلییری . اور رحمت اولییرے زمونیر پہ سردار محمد باندے پہ

اَلْاٰخِرَةِ وَالْاٰوَّلِي ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

اخرت کنے ہم او پہ دنیا کنے ہم . اور رحمت اولییرے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ شَابًا زَكِيًّا ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد باندے چہ خوان پاکیزہ وو اور رحمت اولییرے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ كَهْلًا مَّرْضِيًّا ۝ وَصَلِّ عَلَى

محمد باندے چہ پوخ عمرے پسندیدہ وو اور رحمت اولییرے پہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُنْذُ كَانَ فِي الْمَهْدِ

سردار زمونیر محمد باندے کلہ چہ ووہغہ پہ خانگو کنے

صَبِيًّا ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ماشوم . اور رحمت اولییرے زمونیر پہ سردار محمد باندے

حَتّٰى لَا يَبْقَىٰ مِنَ الصَّلٰوةِ شَيْءٌ ۝ اَللّٰهُمَّ

تو دے پورے چہ پاتے نشی د درود نہ خہ شے . اے اللہ

وَاعْطِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا اِلٰهَ مَقَامِ الْمَحْمُوْدِ

او ورکرے زمونیر سردار محمد تہ مقام محمود

الَّذِي وَعَدْتَهُ الَّذِي إِذَا قَالَ صَدَّقْتَهُ

دکرم چہ تاو عدہ کرے ہفہ سرہ ہفہ ہستی چہ کلہ نے خبرہ او کرہ نوتارے

وَإِذَا سَأَلَ أَعْطَيْتَهُ ۝ اللَّهُمَّ وَاَعْظُم

تصدیق او کرو او کلہ دے چہ سوال او کرہ نوتواتہ واکرہ او کبرہ امے اللہ

بُرْهَانَهُ وَشَرَفَ بِنْيَانَهُ وَأَبْلَجَ حُجَّتَهُ

اولو نے کرے دلیل دھغہ او او چتہ کرے بنا دھغہ اورو بنا نہ کرے دلیل دھغہ

وَبَيَّنَ فَضِيلَتَهُ ۝ اللَّهُمَّ وَتَقَبَّلْ

او ظاہر کرے فضیلت دھغہ . امے اللہ او قبول کرے . شفاعت دھغہ

شَفَاعَتَهُ فِي أُمَّتِهِ ۝ وَاسْتَعْمَلْنَا سُنَّتَهُ

پہ بارہ دامت خہل کنبے . او مونیرہ روان کرے پہ طریقہ دھغوی

وَتَوَقَّنَا عَلَى مِلَّتِهِ وَأَحْشَرْنَا فِي زُمْرَتِهِ

اومونیرہ وفات کرے پہ ملت دھغوی اومونیرہ پاسوے پہ دلہ دھغوی کنبے

وَتَحْتَ لُؤَائِهِ وَاجْعَلْنَا مِنْ رُقَقَائِهِ

او لانڈے دجھنڈے دھغوی او مونیرہ او مگر خوے ملگری دھغوی .

وَأُورِدْنَا حَوْضَهُ وَأَسْقِنَا بِكَاسِهِ وَ

اومونیرہ ورو لے دھغوی حوض تہ او یہ مونیرہ شکل او کرے دھغوی دجام نہ او

أَنْفَعْنَا بِمَحَبَّتِهِ ۝ اللَّهُمَّ أَمِينَ ۝ وَ

مونیرہ فائدہ را کرے دھغوی پہ محبت سرہ . امے اللہ دادعامو قبولہ کرے . او

أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الَّتِي دَعَوْتُكَ بِهَا

سوال کرم لتانہ ستایہ ہفہ نو مونو سرہ چہ مارا ہلے کنبے پہ ہفہ سرہ

أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا

چہ رحمت اولیرہ ز مونیرہ سردار محمد باندے پہ شمار دھغے چہ

وَصَفْتُ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُ عِلْمَهُ إِلَّا أَنْتَ

صفت نے کرے دے ما او یہ مقدار دھغے چہ نہ دے معلوم علم دھغے مگر تانہ

وَأَنْ تَرْحَمَنِي وَتَتُوبَ عَلَيَّ وَتُعَافِيَنِي

اوداچہ رحم او کرے پہ ماہاندے او توبہ مے قبولہ کرے او عافیت را لہ را کرے

مِنْ جَمِيعِ الْبَلَاءِ وَالْبُلُوَاءِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي

دتولو بلاگانوہ او غمونونہ او داچہ بخینہ او کبرے ماتہ

وَلَوْ أَلَدَيْ وَتَرَحَّمِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

او خمامور پلارته اورحم و کره په مومنانوسر و او په مومنانو بشخوباندے

وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الرَّحْبَاءِ مِنْهُمْ

او په مسلمنانوسر و او په مسلمنانو بشخوباندے خوک چه ژوندي دي په

وَالْأَمْوَاتِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِعَبْدِكَ فُلَانٍ

دوی کے او خوک چه مره دي او دا چه او بخینے بنده خپل فلانے

ابْنِ فُلَانٍ الْمُدْنِبِ الْخَاطِئِ الضَّعِيفِ

خونے ذفلاني چه گنهکار دے 'خطا کار دے' کمزور دے او دا چه نظر

وَأَنْ تَتُوبَ عَلَيْهِ إِنَّكَ غَنُورٌ رَّحِيمٌ

درحمت او کره په ده باندے بیشکه ته ډیر بخینونکے ډیر مهربان ئے

اللَّهُمَّ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

یا الله دعامے قبوله کره اے دعالمونو پروردگار ه . فرماتیلی دي

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ

رسول الله صلي الله عليه وسلم چا چه

قَرَأَ هَذِهِ الصَّلَاةَ مَرَّةً وَاحِدَةً كَتَبَ

اولو ستلو دا درور یوخل نو او به لیکي الله تعالی

اللَّهُ لَهُ ثَوَابٌ حَجَّةٍ مَقْبُولَةٍ وَثَوَابٌ

هغه دياره ثواب د قبول شوي حج او ثواب دهغه چا

مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مِّنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ

چه آزاد کرې غلام د اولاد ذ اسماعيل

عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَا

عليه السلام نه' پس فرمائي الله تعالی چه دے

مَلِكِي هَذَا عَبْدٌ مِّنْ عِبَادِي


فرشتو دا يو بنده دے حما د بندگانونه چه زيات درود

أَكْثَرَ الصَّلَاةِ عَلَى حَبِيبِي مُحَمَّدٍ

ئے ويلے دے خمایه حبيب محمد باندے پس حما دقسم وي په خپل

قَوْعَزَّتِي وَجَلَّالِي وَجُودِي وَمَجْدِي

عزت او په خپل جلال او په خپل سخاوت او په خپلے بزرگني باندے .



مَا حَمَلَ كُرْسِيَّكَ مِنْ عَظَمَتِكَ

چه او چنه كرسى تے ده كرسى ستا ستا عظمت نه

وَقُدْرَتِكَ وَجَلَالِكَ وَبِهَائِكَ وَ

او ستا قدرت نه او ستا دجلال نه او ستا ذرانه او

سُلْطَانِكَ وَبِحَقِّ اسْمِكَ الْمَخْزُونِ

ستا د بادشاهى نه او په وسيله دنوم ستاچه خزانه شوه

الْمَكْنُونِ الَّذِي سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ وَ

او پت شوه دى هغه چه تانوم اينه دى په ذات خپل او

أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ وَأَسْتَأْثَرْتَ بِهِ

تا نازل كړى دى په خپل كتاب كښه او تا اختيار كړى دى

فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ

په علم غيب كښه خپل خان سره چه رحمت او ليرى په

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَ

سردار زمونږ محمد باندي چه ستا بنده او رسول دى او

وَأُرْفَعَنِي لِأَعْظَمِيَّةِ بِكُلِّ حَرْفٍ صَلَّ

اوپه خپل او جوالي چه زه به ضرور كړم ده ته په عوض دهر حرف باندي

بِهِ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ وَلِيَأْتِيَنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

چه ده درو دلكه دى په هغه سره يوم محل په جنت كښه اوده به راخي ماله

تَحْتَ لُؤَاءِ الْحَمْدِ نُورُ وَجْهِهِ كَالْقَمَرِ

دقيامت په ورځ دحمد جهنم دلاندې دده دمخ رنرابه په شان د خوار لسم

لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَكَفَّهُ فِي كَفِّ جَيْبِي مُحَمَّدٍ

شبه د سپوږمى وي اوده لاس به خما د حبيب محمد په لاس كښ وي

هَذَا الْمَنْ قَالَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ الْجُمُعَةِ

دا فضيلت هغه چا دپاره دى چه دا او وائي دهر جمع په ورځ

لَهُ هَذَا الْفَضْلُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

هغه د پاره دا فضيلت دى او الله دلورنى فضل خاوند دى

وَفِي رِوَايَةٍ ۞ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ

اوپه پوروايت كښه دى اى الله زه سوال كوم تانه په وسيله دهغه چا

أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ

سوال کوم تانہ ستادھغہ نوم پہ وسیلے سرہ چہ کلہ تہ راویلے شے پہ ہغے

أَجَبْتَ وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ

سرہ نوقبولوالے کومے او کلہ چہ سوال او کرمے شی تانہ پہ ہغے سرہ نور کرہ

وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى

کومے اوسوال کوم تانہ ستادھغہ نوم پہ وسیلے سرہ چہ تا کینودو پہ

الْبَيْلِ فَأَظْلَمَ

شہہ باندے نو تبارہ شولہ او پہ ورخ باندے نو رنہا شولہ

وَعَلَى السَّمَوَاتِ فَاسْتَقَلَّتْ

او پہ آسمانونو باندے نو قائم شول او پہ

الْأَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ

زمکہ باندے نو قرار ئے او نیوز او پہ غرونو باندے

فَرَسَتْ

نو مضبوط شول او پہ سختہ زمکہ باندے نو نرمہ شولہ

وَعَلَى مَاءِ السَّمَاءِ فَسَكَبَتْ

او پہ اوبود آسمان باندے نور اتونے شوے او پہ وریخ باندے نواو وریدہ او

فَأَمْطَرَتْ

سوال کوم تانہ پہ ہغہ دعاسرہ چہ سوال کرمے ووتانہ پہ ہغے سرہ زمونیرہ

مَحَمَّدٌ نَبِيِّكَ

سردار محمد چہ ستا نبی دے اوسوال کوم تانہ پہ ہغے سرہ چہ سوال کرمے ووتانہ

سَيِّدِنَا أَدَمُ نَبِيِّكَ

پہ ہغے سرہ زمونیرہ سردار آدم چہ ستا نبی ووا سوال کوم تانہ پہ ہغے سرہ

بِهِ أَنْبِيَاءُ وَكَرُسُلِكَ وَمَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبُونَ

چہ سوال کرمے ووتانہ پہ ہغے سرہ نبیانو ستا اور سولانوستا او مقربو

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

فرشتو ستاد اللہ رحمت دوی پہ ہغوی تہولو باندے او سوال کوم تانہ

بِمَا سَأَلْتُكَ بِهِ أَهْلُ طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ

پہ ہغے سرہ چہ سوال کرمے ووتانہ پہ ہغے سرہ ستا تہولو تابعدارو بندگانو

أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ
 چه ته رحمت او ليرے زمونير په سردار محمد باندي او په آل
 سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنْ
 د سردار زمونير محمد باندي په شمار دهغه مخلوق چه تا پيدا كړې دے
 قَبْلِ أَنْ تَكُونَ السَّمَاءُ مَبْنِيَّةً وَالْأَرْضُ
 مخكښې ددې نه چه اسمان جوړ كړې شوې وو او زمكه
 مَطْبِيَّةً وَالْجِبَالُ مَرْسِيَّةً وَالْعَيُونُ
 غورولې شوې وه او غرونه محكم شوي وو او چينه
 مَنْفَجِرَةٌ وَالْأَنْهَارُ مِنْهُمْ رَوَّاحَةٌ وَالشَّمْسُ
 جاري شوې وه او نهرونه روان كړې شوي وو او نمر
 مُضْحِيَّةً وَالْقَمَرُ مُضِيًّا وَالْكَوَاكِبُ مُنِيرَةٌ
 خليدې وو او سپوږمې روښانه شوې وه او سعوري خليدلي وو
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ
 اے الله رحمت او ليرے زمونير په سردار محمد باندي او زمونير

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ عَلِيمِكَ ۝ وَ
 د سردار محمد په آل باندي په شمار د علم ستا او
 صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا
 رحمت او ليرے زمونير په سردار محمد باندي او په آل د سردار زمونير
 مُحَمَّدٍ عَدَدَ دَحْلَمِكَ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا
 محمد باندي په شمار د حلم ستا او رحمت او ليرے زمونير په سردار
 مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ
 محمد باندي او زمونير د سردار محمد په آل باندي په شمار
 مَا أَحْصَاهُ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ مِنْ عِلْمِكَ
 دهغه چه راكبر كړي دي لوح محفوظ د علم ستانه
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ
 او رحمت او ليرے زمونير په سردار محمد باندي او په
 آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا جَرَىٰ بِهِ
 آل د سردار زمونير محمد باندي په شمار دهغه چه جاري شوې دے

الْقَلَمُ فِي أَمْرِ الْكِتَابِ عِنْدَكَ ○ وَ

قلم پہ لوح محفوظ کتبے ستا پہ نزد او

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

رحمت اولیے زمونیر پہ سردار محمد باندے او پہ آل د سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ قُلِّ سَمَوَاتِكَ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

محمد باندے پہ ذکوالی د آسمانوں اور رحمت اولیے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ قُلِّ

محمد باندے او زمونیر د سردار محمد پہ آل باندے پہ ذکوالی

أَرْضِكَ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

د زمکے ستا او رحمت اولیے زمونیر پہ سردار محمد باندے

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِلَّ مَا أَنْتَ

او زمونیر د سردار محمد پہ آل باندے پہ ذکوالی د ہفتخہ

خَالِقُهُ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ

چہ تہ نے پیدا کونکے نے ذکومے ورخے نہ چہ تہ دنیا پیدا کرے دہ ترورخ

الْقِيَامَةِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

د قیامت پورے اے اللہ رحمت اولیے زمونیر پہ سردار محمد باندے

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ صُفُوفِ

او زمونیر د سردار محمد پہ آل باندے پہ شمار د صفوںو

الْمَلَائِكَةِ وَتَسْبِيحِهِمْ وَتَقْدِيرِهِمْ

د فرشتوںو د دھغوی د تسبیح او دھغوی د تقدیس

وَتَحْمِيدِهِمْ وَتَمْجِيدِهِمْ وَتَكْبِيرِهِمْ وَ

او دھغوی د تحمید او دھغوی د تمجید او دھغوی د تکبیر او

تَهْلِيلِهِمْ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى

دھغوی د تہلیل د کومے ورخ نہ چہ تہ دنیا پیدا کرے دہ تر

يَوْمِ الْقِيَامَةِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ورخ د قیامت پورے اے اللہ رحمت اولیے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

محمد او زمونیر د سردار محمد پہ آل باندے پہ شمار

السَّحَابِ لُجَارِيَّةٍ وَالرِّيَّاحِ الدَّارِيَّةِ

دوربخو منابو وهونکو او دھواکانو چلیدونکو

○ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

دکومے ورخے نہ چه تا دنیا پیدا کرے ده د قیامت ترورخ پورے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اورحمت او لیرے زمونیر په سردار محمد باندمے او په

أَبِي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ قَطْرَةٍ

آل د سردار زمونیر محمد باندمے په شمار دهر شاخکی

تَقْطُرُ مِنْ سَمَوَاتِكَ إِلَى أَرْضِكَ وَمَا

چه را پروخی ستا د آسمانونونه ستا زمکے طرفته او هغه چه

تَقْطُرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ

راخاشی د قیامت ترورخ پورے. ایے الله رحمت او لیرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَبِي سَيِّدِنَا

زمونیر په سردار محمد باندمے او په آل د سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا هَبَّتِ الرِّيَّاحُ وَعَدَدَ

محمد باندمے په شمار د هغه چه لیري هواکانے او په شمار د هغه

مَا تَحَرَّكَتِ الْأَشْجَارُ وَالْأَوْراقُ وَ

چه حرکت کوي اونے او بانرے او

الزُّرُوعُ وَجَمِيعِ مَا خَلَقْتَ فِي قَرَارِ

فصلونه او تول هغه خه چه تا پیدا کړي دي په قرار

الْحِفْظِ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ

د حفظ کنې دکومے ورخ نه چه تا پیدا کرے ده دنیا ترورخ

الْقِيَامَةِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ


د قیامت پورے. ایے الله رحمت او لیرے زمونیر په سردار محمد باندمے

وَعَلَى أَبِي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْقَطْرِ

او په آل د سردار زمونیر محمد باندمے په شمار د شاخکو

وَالْمَطَرِ وَالنَّبَاتِ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ

اوبارانونو او شینکود کومے ورخ نه چه تا پیدا کرے ده



اللَّهُ نَبِيًّا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

دنیاد قیامت ترورخ پورے۔ اے اللہ رحمت اولیرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

زمونیر پہ سردار محمد باندے او پہ آل د سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ عَدَدَ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ مِنْ

محمد باندے پہ شمار دستورو پہ آسمان کنے دکومے

يَوْمَ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝

ورخ نہ چہ تا پیدا کرے ده دنیا د قیامت ترورخ پورے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ رحمت اولیرے زمونیر پہ سردار محمد باندے او پہ آل

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِي

د سردار زمونیر محمد باندے پہ شمار دھغے چہ تا پیدا کرے دی پہ

بِحَارِكِ السَّبْعَةِ مِمَّا لَا يَعْلَمُ عِلْمَهُ إِلَّا

پہ خپلو اوو سمندر ونو کنے دکومو علم چہ هیجا ته نیشته سوا

أَنْتَ وَمَا أَنْتَ خَالِقَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝

دستانه اوپہ شمار دھغے چہ ته نے پیدا کونکے نے دقیامت ترورخ پورے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ رحمت اولیرے زمونیر پہ سردار محمد باندے او پہ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرَّمْلِ وَالْحَصَى

آل د سردار زمونیر محمد باندے پہ شمار د شکر او کوت کانرو

فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا ۝

پہ مشرقونو د زمکے کنے او پہ معزبونو دھغے کنے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ رحمت اولیرے زمونیر پہ سردار محمد باندے او پہ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ

آل د سردار زمونیر محمد باندے پہ شمار دھغے چہ تا پیدا کرے دی

مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَمَا أَنْتَ خَالِقَةٌ

د پیریانو او انسانانونه او کوم چہ ته پیدا کونکے نے

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

دقیامت ترورخ پورے۔ اے اللہ رحمت اولیہے زمونیر پہ سردار

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

محمد باندے او زمونیر د سردار محمد پہ آل باندے

عَدَدَ أَنْفُسِهِمْ وَأَلْفَاظِهِمْ وَالْحَاظِهِمْ

پہ شمار دسہ گانو دھغوی او ذ الفاظو دھغوی او دکتلو دھغوی

مَنْ يَوْمَ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝

د کومے ورخ نہ چہ تا دنیا پیدا کرے دہ دقیامت ترورخ پورے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ رحمت اولیہے زمونیر پہ سردار محمد باندے او پہ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ طَيْرَانِ الْجَنِّ

آل د سردار زمونیر محمد باندے پہ شمار د آلوتلول د پیرانو

وَالْمَلَائِكَةِ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى

او د ملائکو د کومے ورخ نہ چہ تا دنیا پیدا کرے دہ تر

يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ورخ د قیامت۔ اے اللہ رحمت او لیہے زمونیر پہ سردار

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

محمد باندے او زمونیر د سردار محمد پہ آل باندے پہ شمار

الطُّيُورِ وَالْهَوَامِّ وَعَدَدِ الْوُحُوشِ وَ

دسارغانو او د زمکے د چینجو او پہ شمار د خنکلی ٹخاورو او

الْأَكَامِ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا ۝

پہ شمار د دیرکو د زمکے پہ مشرقونو کنبے او پہ مغربونو کنبے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ رحمت اولیہے زمونیر پہ سردار محمد باندے او پہ

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْأَخْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ

آل د سردار زمونیر محمد باندے پہ شمار د ژوندو او د مرو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ رحمت او لیہے زمونیر پہ سردار محمد باندے او پہ



اَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا اَظْلَمَ

آل د سردار ز منور محمد باندے پہ شمار دھغہ خیزونو چہ تیارہ شوعہ ده

عَلَيْهِ الْبَلُّ وَاشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ مِنْ

وربانده شہہ او روپانہہ شوعہ ده وربانده ورخ دکومے

يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ○

ورخ نہ چہ تا دنیا پیدا کرے ده د قیامت ترورخ ہورے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

اے اللہ رحمت او لبرے ز منور پہ سردار محمد باندے او پہ

اَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يَّمْشِيْ

آل د سردار ز منور محمد باندے پہ شمار دھغہ چاچہ گرخی

عَلٰى رَجُلَيْنِ وَمَنْ يَّمْشِيْ عَلٰى اَرْبَعٍ مِّنْ

پہ دوؤ خپوبانده او خوک چہ گرخی پہ خلورو خپو دکومے

يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ○

ورخ نہ چہ تا دنیا پیدا کرے ده د قیامت ترورخ ہورے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

اے اللہ رحمت او لبرے ز منور پہ سردار محمد باندے او پہ آل

اَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ

د سردار ز منور محمد باندے پہ شمار دھغہ چاچہ درودنے لبرے وی پہ ہغہ

مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالْمَلَائِكَةِ مِنْ

بانده د پیریانو او انسانونہ او دملانکونہ دکومے ورخ نہ

يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ○

چہ تا دنیا پیدا کرے ده د قیامت ترورخ ہورے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى


اے اللہ رحمت او لبرے ز منور پہ سردار محمد باندے او پہ

اَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يُصَلِّيْ عَلَيْهِ

آل د سردار ز منور محمد باندے پہ شمار دھغہ چاچہ درود لبرے پہ ہغوی

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى

بانده اے اللہ رحمت او لبرے ز منور پہ سردار محمد باندے او پہ



إِلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ
 عَلَيْهِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا يَجِبُ أَنْ
 يُصَلَّى عَلَيْهِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا
 مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا
 يَسْتَبِغُ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
 سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

آل دسردار زمونیر محمد باندے پہ شمار دھفہ چاچہ درود نے نہ دے لیکلے
 پہ هغوی باندے. اے اللہ رحمت اولیرے زمونیر پہ سردار محمد باندے
 او پہ آل د سردار زمونیر محمد باندے خنکہ چہ واجب دی
 درود لیکل پہ هغوی باندے. اے اللہ رحمت اولیرے زمونیر پہ سردار
 محمد باندے او زمونیر د سردار محمد پہ آل باندے خنکہ چہ
 بنائیری درود لیکل پہ هغوی باندے. اے اللہ رحمت اولیرے پہ
 سردار زمونیر محمد باندے او پہ آل د سردار زمونیر محمد باندے

حَتَّى لَا يَبْقَى شَيْءٌ مِّنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ ○
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي
 الْأَوَّلِينَ ○ وَ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 فِي الْآخِرِينَ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا
 مُحَمَّدٍ فِي الْمَلَائِكَةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ○
 مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ○

تر دے چہ باقی باتے نشی هیک خیز د درود نہ پہ هغوی باندے اے اللہ
 رحمت اولیرے زمونیر پہ سردار محمد باندے پہ رومینو خلقو کنے
 اور رحمت اولیرے زمونیر پہ سردار محمد باندے پہ روستنو خلقو
 کنے. اے اللہ رحمت اولیرے زمونیر پہ سردار محمد باندے داوحت
 مجلس فرشتو کنے د قیامت ترورخ پورے شہ چہ اللہ او غواری هفہ
 کبیری نیشته دے قوت مگر پہ امداد اللہ سرہ چہ او چت او لورے دے

الْحَزْبُ السَّادِسُ فِي يَوْمِ السَّبْتِ

شہرم حزب دخالی د ورخے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ رحمت او لپیے زمونیر پہ سردار محمد باندے او پہ

أٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ

آل د سردار زمونیر محمد باندے او ورکھے هغه ته وسیله

او فضیلت او درجه او چتہ او وے رسوے

مَقَامًا مَّحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ

مقام محمود ته دکوم چه ورسره تاوعده کرے ده بیشکه

لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝ اللَّهُمَّ عَظِّم

ته دوعده خلاف نه کوے اے اللہ او چت کرے

شَانَهُ وَبَيِّنْ بُرْهَانَهُ وَأَبْلِجْ حُجَّتَهُ

شان دهغوی او ظاهر کرے دلیل دهغوی اور وبنانه کرے حجت دهغوی

الحزب السادس ۲۸۷ ذاکر الخیرت

وَبَيِّنْ فَضِيلَتَهُ وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِي

او ظاهر کرے فضیلت دهغوی او قبول کرے شفاعت دهغوی پہ

أُمَّتِهِ وَاسْتَعْمِلْنَا لِسُنَّتِهِ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ

امت دهغوی کنے او مونیر عمل کونکی کرے پہ سنت دهغوی اے

وَيَا رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ اللَّهُمَّ

رب العالمینہ او اے دعرش عظیم رہے اے اللہ

يَا رَبِّ احْشُرْنَا فِي زَمْرَتِهِ وَتَحْتَ

اے رہے پاسوے مونیرہ پہ ذله دهغوی کنے او لاندے دجهنمے دهغوی

لِوَأَيْهِ وَأَسْقِنَا بِكَاسِهِ وَانْفَعْنَا بِحَبَّتِهِ

او او حکومے پہ مونیرہ دجام دهغوی نه او نفع را کرے پہ محبت دهغوی

أَمِينِ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ اللَّهُمَّ يَا رَبِّ

سرہ دا دعا موقبولہ کرے اے رب العالمینہ اے اللہ اے پروردگارہ

بَلِّغْهُ عَنَّا أَفْضَلَ السَّلَامِ وَأَجْزِهِ عَنَّا

اور سوے هغوی ته زمونیر دطرفه غوره سلام او بدله ورکھے زمونیر دطرفه

أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ بِهِ النَّبِيَّ عَنْ أُمَّتِهِ

غوره دهغه نه چه تا بدله ور کرے ده په هغه سره یونې ته دخپل امت

يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ اللَّهُمَّ يَا رَبِّ إِنِّي

د طرفه اے رب العالمینہ اے الله پروردگارہ بیشک زه سوال کوم

أَسْأَلُكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي وَتَتُوبَ

تانه چه بخښنه راته او کرے اور رحم راباندے او کرے او توبه قبوله کرے

عَلَيَّ وَتُعَافِيَنِي مِنْ جَمِيعِ الْبَلَاءِ وَالْبُلُوَاءِ

خما او عافیت راله راکرے دتولو بلاکانونه او آفتونونه

الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ وَالنَّازِلِ مِنَ

کوم چه راوځي دزمکه نه او کوم چه راکوزيزي

السَّمَاءِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

د آسمان نه بیشک ته په هر څيز باندے قدرت لرونکے ئے

بِرَحْمَتِكَ وَأَنْ تَغْفِرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

په خپل رحمت سره او دا چه او بخښے مومنان سړي او مومنانې ښځه

وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ

او مسلمانان سړي او مسلمانانې ښځه کوم چه ژوندي دي ددوی نه

وَالْأَمْوَاتِ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَرْوَاحِهِ

او کوم چه مړه دي او راضي دشي الله دپاکو بښانو

الطَّاهِرَاتِ أَهْمَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَضِيَ

د پيغمبرنه چه ميندے دمومنانو دي او راضي دشي الله

اللَّهُ عَنْ أَصْحَابِهِ الْأَعْلَامِ أُمَّةِ الْهُدَى

د هغوی د اصحابو کرامونه کوم چه امامان دهدايت دي

وَمَصَابِيحِ الدُّنْيَا وَعَنِ التَّابِعِينَ وَتَابِعِ

او دپوه ددنیا دي او دتا بعيونونه او د تبع

التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

تابعونونه دپاره دهغوی سره احسان نه د بدلے ورځ پورے

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

او ټول تعريفونه ثابت دي الله لره چه پروردگار د عالمونودے

ابْتِدَاءُ التَّلْثِ التَّالِثِ

ابتدا د دریم ثلث

اللَّهُمَّ رَبَّ الْأَرْوَاحِ وَالْأَجْسَادِ

یا - الله پروردگار دروحوونو او بدنونو

الْبَالِيَةِ أَسْأَلُكَ بِطَاعَةِ الْأَرْوَاحِ الرَّاجِعَةِ

کوم چه وراسته شوي دي سوال کوم تانه په طاعت دروحوونوسره چه رجوع

إِلَى أَجْسَادِهَا وَبِطَاعَةِ الْأَجْسَادِ الْمَلْتَمَةِ

کونکي دي خپلو بدنونو ته او په طاعت د بدنونوسره چه يوځانې شوي دي

بِعُرُوقِهَا وَبِكَلِمَاتِكَ النَّافِذَةِ فِيهِمْ وَ

خپلورگونوسره اوستا په کلماتوسره کوم چه جاري دي په دوی کښې او

أَخَذِكَ الْحَقُّ مِنْهُمْ وَالْخَلَائِقُ بَيْنَ

په وسيله د حق ستا له دوی نه او مخلوقات چه ستا په

يَدَيْكَ يَنْتَظِرُونَ فَصَلِّ قَضَائِكَ وَ

وراندي دي انتظار کوي ستا د حکم فيصلې ته او

يَرْجُونَ رَحْمَتَكَ وَيَخَافُونَ عِقَابَكَ

اميدلري درحمت ستا او يريروي د عذاب ستانه

أَنْ تَجْعَلَ التُّورَفِي بَصْرِي وَذِكْرَكَ

چه ته واچوي نور شما په سترگو کښې او ذکر کول ستا

بِالْيَلِ وَالنَّهَارِ عَلَى لِسَانِي وَعَمَلًا

د شپې او دورځ شما په ژبه او عمل

صَالِحًا فَارْزُقْنِي ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

نيک راته نصيب کړې. اے الله رحمت او ليرې په

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى

سردار زمونږ محمد باندي څنگه چه تارحمت ليكلې دې په

سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا

سردار زمونږ ابراهيم باندي او برکت او ليرې په سردار زمونږ

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ ۝

محمد باندي څنگه چه تارکت ليكلې دې زمونږ په سردار ابراهيم باندي

اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ

اے اللہ نازل کرے رحمتوںہ خیل او برکتوںہ خیل

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

زمونیر پہ سردار محمدؐ باندے او پہ آل دسردار زمونیر

مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ

محمدؐ باندے خنکے چہ تا نازل کرے دے پہ سردار زمونیر ابراہیمؑ

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ

او پہ آل دسردار زمونیر ابراہیمؑ باندے بیشکہ تہ دیر ستائیلے شوے

مَجِيدٌ ۞ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دبزرگیؑ خاوندنہے . او برکت او لیجے پہ سردار زمونیر محمدؐ باندے

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ

او پہ آل دسردار زمونیر محمدؐ باندے خنکے چہ تا برکت لیکلے دے

عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

پہ سردار زمونیر ابراہیمؑ باندے او پہ آل دسردار زمونیر

إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۞ اللَّهُمَّ

ابراہیمؑ باندے بیشکہ تہ دیر ستائیلے شوے دتریفونو خاوندنہے . اے اللہ

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ

رحمت او لیجے پہ سردار زمونیر محمدؐ باندے کوم چہ ستابندے دے او

رَسُولِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ

ستا رسول دے او رحمت او لیجے پہ مومنانو سرو او

الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

پہ مومنانو بنحو او پہ مسلمانانو سرو او مسلمانانو بنحو باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

اے اللہ رحمت او لیجے پہ سردار زمونیر محمدؐ باندے او

عَلَى آلِهِ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَ

پہ آل دھغہ پہ شمار دھغے چہ احاطہ کرے دہ ورباندے علم ستا او

أَحْصَاهُ كِتَابُكَ وَشَهِدْتُ بِهِ مَلَائِكَتَكَ

راکبیر کری دی کتاب ستا او گواہی کرے دہ پہ ہغے سرہ فرشتو ستا

صَلَاةً دَائِمَةً تَذُومُ يَدَاؤِمُكَ اللَّهُ

رحمت دهمیشه والی چه همیشه وی سره دهمیشه والی دملک دالله

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الْعِظَامِ

ای الله زه سوال کوم تا نه په وسیله دلویو نومونو ستا

مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَلَا بِأَسْمَاءِ

کوم چه معلوم دی ماته او کوم چه راته نه دی معلوم او په وسیله دهغه نومونو

الَّتِي سَمَّيْتَ بِهَا نَفْسَكَ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا

چه ایخی دی تا په خپل ذات باندې کوم چه ماته معلوم دی

وَمَا لَمْ أَعْلَمْ أَن تَصَلِّيَ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

او کوم چه ماته نه دی معلوم داچه رحمت اولیې په سردار زموږ

مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ

محمد باندې کوم چه ستانده دے او ستا رسول دے

عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكُونَ

په شمار دهغه چه تا پیدا کړې دی مخکې ددے نه چه وو

السَّمَاءِ مَبْنِيَّةً وَالْأَرْضِ مَدْحِيَّةً وَ

اسمان جوړشوی او زمکه غوړولې شوی او

الْجِبَالِ مَرْسِيَّةً وَالْعِيُونَ مُنْفَجِرَةً وَ

غرونه محکم شوي او چینې جاري کېږي شوي او

الْأَنْهَارُ مُنْهَمِرَةً وَالشَّمْسُ مُشْرِقَةً

بهرونه روان کېږي شوي او نمر خپلې

وَالْقَمَرُ مُضِيئًا وَالْكَوَاكِبُ مُسْتَبِيرَةً

او سپوږمې رنډې شوي او ستوري روښانه شوي

وَالْبِحَارُ مُجْرِيَةً وَالْأَشْجَارُ مُثْمِرَةً

او دریا بونه جاري شوي او اوانې میوه دارې شوي

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

ای الله رحمت او لیږې په سردار زموږ محمد باندې په شمار

عَلَيْكَ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

دعلم ستا او رحمت او لیږې په سردار زموږ محمد باندې

عَدَّةٌ حَلِيمَةٌ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

په شمار دحلم ستا او رحمت او ليرې په سردار زمونږ

مُحَمَّدٍ عَدَّةً كَلِمَاتِكَ ۝ وَصَلِّ عَلَى

محمد باندې په شمار دكلماتو ستا او رحمت او ليرې په

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَّةً دِنِعْمَتِكَ ۝ وَ

سردار زمونږ محمد باندې په شمار د نعمت ستا او

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَّةً فَضْلِكَ

رحمت او ليرې په سردار زمونږ محمد باندې په شمار د فضل ستا

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَّةً جُودِكَ

اورحمت اوليرې په سردار زمونږ محمد باندې په شمار داسمانونو ستا

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَّةً سَمَوَاتِكَ

اورحمت اوليرې په سردار زمونږ محمد باندې په شمار د زمكو ستا

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَّةً أَرْضِكَ

اورحمت اوليرې په سردار زمونږ محمد باندې په شمار د زمكو ستا

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَّةً مَا

او رحمت او ليرې په سردار زمونږ محمد باندې په شمار د شمار د

خَلَقْتَ فِي سَبْعِ سَمَوَاتِكَ مِنْ مَلَائِكَتِكَ

مخلوق ستا په اوو اسمانونو كښې د ملائكو ستا نه او رحمت او

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَّةً مَا

ليرې په سردار زمونږ محمد باندې په شمار د هغه مخلوق چه

خَلَقْتَ فِي أَرْضِكَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ

تا پيدا كړې دې په زمكه خپله كښې د پيريانو او بنياد مونه او د دوى

وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْوَحْشِ وَالطَّيْرِ وَغَيْرِهِمَا

نه سوا دڅنگلي خنا و رونه او دمارغانو نه او سوا د دوى نه اورحمت

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَّةً مَا جَرَى

اوليرې په سردار زمونږ محمد باندې په شمار دهغه چه جاري شوه دې

بِهِ الْقَلَمُ فِي عِلْمِ غَيْبِكَ وَمَا يَجْرِي بِهِ

په هغه سره قلم په علم غيب ستا كښې او په كوم څه چه به جاري كيرې

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

د قیامت ترورخے پورے اور رحمت اولیبرے زمونیرہ سردار محمد باندے

عَدَدَ الْقَطْرِ وَالْمَطَرِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

پہ شمار د شاخکو او دباران او رحمت او لیبرے زمونیرہ سردار

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يَحْمَدُكَ وَيَشْكُرُكَ

محمد باندے پہ شمار دهغه چاچه ستا ثنا وانی او ستاشکر کوی

وَيُهَيِّلُكَ وَيَمْجِدُّكَ وَيَشْهَدُ أَنَّكَ

او ستا تهلیل وانی او ستا لونی بیانوی او کواهی ورکوی چه بیشکه

أَنْتَ اللَّهُ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

ته الله ئے اور رحمت او لیبرے زمونیرہ سردار محمد باندے پہ شمار

مَا صَلَّيْتَ عَلَيْهِ أَنْتَ وَمَلَائِكَتُكَ ۝ وَ

دهغه چه تا درود لیبرے دے پہ هغه باندے او فرشتو ستا اور رحمت

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ صَلَّى

اولیبرے زمونیرہ سردار محمد باندے پہ شمار دهغه چاچه درود لیکلے دے

عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

پہ هغوی باندے دمخلوق ستا نه او رحمت او لیبرے زمونیرہ سردار

مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ مِنْ

محمد باندے پہ شمار دهغه چاچه درود ئے نه دے لیکلے پہ هغوی باندے

خَلْقِكَ ۝ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ستاد مخلوق نه او رحمت او لیبرے زمونیرہ سردار محمد باندے

عَدَدَ الْجِبَالِ وَالرِّمَالِ وَالْحَصَى ۝ وَ

پہ شمار دغرونو او د شکو او د کوت کانرو او

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الشَّجَرِ وَ

رحمت او لیبرے زمونیرہ سردار محمد باندے پہ شمار داونو او

أَوْرَاقِهَا وَالْمَدْرِ وَأَثْقَالِهَا ۝ وَصَلِّ عَلَى

دهغه دپانرو او د لوتو او دهغه د بوجونو او رحمت او لیبرے پہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ كُلِّ سَنَةٍ وَمَا

سردار زمونیرہ محمد باندے پہ شمار دهر کال او هغه چه

تَخْلُقُ فِيهَا وَمَا يَمُوتُ فِيهَا ○ وَصَلِّ

چه ته نه پيدا کوم په دمه کنه او هغه چه مري په دمه کنه او رحمت

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا تَخْلُقُ كُلَّ

اوليره په سردار زمونږ محمد باندې په شمار دهغه چاچه ته نه پيدا کوم

يَوْمٍ ○ وَمَا يَمُوتُ فِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ○

هره ورځ او څه چه مري په دمه کنه د قيامت تر ورځ پورې

اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

او رحمت او ليره په سردار زمونږ محمد باندې په شمار

السَّحَابِ بِجَارِيَةِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

د روانو وريځو په مينځ د آسمان او د زمکه

وَمَا تَطْرُقُ مِنَ الْمِيَاهِ ○ وَصَلِّ عَلَى

او په شمار دهغه چه راوړيري د باران نه او رحمت او ليره په

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرِّيحِ الْمُسَخَّرَاتِ

سردار زمونږ محمد باندې په شمار د با دونو چه فرمان بردار دي

فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا ○

په مشرقونو د زمکه کنه او دهغه په مغربونو کنه او

جَوْفِهَا وَقِبْلَتَيْهَا ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

مغه په خيسته کنه او دهغه په قبله کنه او رحمت او ليره زمونږ په

مُحَمَّدٍ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ ○ وَصَلِّ

سردار محمد باندې په شمار د ستورو د آسمان او رحمت او ليره

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ فِي

زمونږ په سردار محمد باندې په شمار د هغه چه تا پيدا کړي دي په

بِحَارِكِ مِنَ الْحَيَاتِ وَالذَّوَابِّ وَالْمِيَاهِ

د ريبونو خپلو کنه د کبانو نه او د چار پايانو نه او داوبو نه

وَالرَّمَالِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

او د شگونه او سوا دده نه او رحمت او ليره زمونږ په سردار

مُحَمَّدٍ عَدَدَ النَّبَاتِ وَالْحُطَّةِ ○ وَ

محمد باندې په شمار د شينکو او دکوت کانډو او

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ التَّمَلُّكِ

رحمت او لیبرے زمونیر پہ سردار محمد باندے پہ شمار د میرو

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْمِيَاهِ

او رحمت او لیبرے پہ سردار زمونیر محمد باندے پہ شمار د اوبو

الْعَذْبَةِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

خوپرو. او رحمت او لیبرے پہ سردار زمونیر محمد باندے

عَدَدَ الْمِيَاهِ الْمُلْحَةِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

پہ شمار د مالکینو اوبو. او رحمت او لیبرے پہ سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ عَدَدَ نِعْمَتِكَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ

محمد باندے پہ شمار د نعمتونو سنا پہ تول مخلوق خپل او رحمت

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ نِقْمَتِكَ

اولیبرے پہ سردار زمونیر محمد باندے پہ شمار د ناراضگی او د عذاب

وَعَذَابِكَ عَلَى مَنْ كَفَرَ بِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

خپل پہ ہفہ چا باندے چہ کفر نے کرے دے زمونیر پہ سردار محمد باندے

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلِّ عَلَى

صلی اللہ علیہ وسلم. او رحمت او لیبرے پہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا دَامَتِ الدُّنْيَا

سردار زمونیر محمد باندے پہ شمار د ہمیشہ والی د دنیا

وَالْآخِرَةِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

او د آخرت. او رحمت او لیبرے پہ سردار زمونیر محمد باندے

عَدَدَ مَا دَامَتِ الْخَلَائِقُ فِي الْجَنَّةِ

پہ شمار د ہفے چہ تر خوبورے وی مخلوق پہ جنت کنے

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا

او رحمت او لیبرے پہ سردار زمونیر محمد باندے پہ شمار د ہفے

دَامَتِ الْخَلَائِقُ فِي النَّارِ وَصَلِّ

چہ تر خوبورے وی مخلوق پہ دوزخ کنے او رحمت او لیبرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَى قَدْرِ مَا تُحِبُّهُ

زمونیر پہ سردار محمد باندے پہ مقدار د ہفے چہ تہ نے خوبورے

الحزب الثالث ۳۰۴

وَتَرْضَاهُ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اوتہ پرے راضی کیجئے۔ اور حمت اولیوں پہ سردار زموں پر محمدؐ باندمے

عَلَى قَدْرِ مَا يُحِبُّكَ وَيَرْضَاكَ ○ وَ

پہ مقدار دہغہ چاچہ محبت کوی تاسرہ او راضی ساتی تا او

صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَبَدًا أَبَدِينَ

رحمت او لیوں پہ سردار زموں پر محمدؐ باندمے ابدالا باده پورے

وَأَنْزِلْهُ الْمُنْزِلَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ ○ وَ

اونازل کرے ہغہ لہرہ پہ مقربہ رتبہ کنیے خچل خان سرہ او

أَعْطِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّفَاعَةَ

دیکرے ورلہ وسیلہ او فضیلت او شفاعت

وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَأَبْعَثْهُ الْمَقَامَ

او درجہ او چنہ او وے لیوں مقام

الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَنَّهُ إِنَّكَ لَا

محمودتہ دکوم چہ ورسرہ تا وعدہ کرے دہ بیشکہ تہ نہ کوئے خلاف

الحزب الثالث ۳۰۵

تُخَلِّفُ الْمِبْعَادَ ○ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

دوعلمے۔ اے اللہ زہ تانہ سوال کوم

بِأَنَّكَ مَا لِكُنِّي وَسَيِّدِي وَمَوْلَايَ ○ وَ

بیشکہ تہ خما مالک نے او خما سردار نے او خما مولانے او

ثِقَتِي وَرَجَائِي أَسْأَلُكَ بِحُرْمَةِ الشَّهْرِ

خما تکیہ گمانے او خما امید نے زہ سوال کوم تانہ پہ حرمت دمیاشتے

الْحَرَامِ وَالْبَلَدِ الْحَرَامِ وَالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

دعزت او ذبشار دعزت او د مشعرا لحرام (مزدلفہ)

وَقَبْرِ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ تَهَبَ

او پہ حرمت د قبر د نبی ستا علیہ السلام چہ را نصیب کرے

لِي مِنْ الْخَيْرِ مَا لَا يَعْلَمُ عِلْمَهُ إِلَّا أَنْتَ

مانہ د خیرنہ ہغہ چہ د ہغے علم نیشتہ مکر تانہ

وَتَصْرِفَ عَنِّي مِنَ السُّوءِ مَا لَا يَعْلَمُ

او واروں خمانہ ہغہ بدوالے چہ دہغے علم نیشتہ

عِلْمَهُ إِلَّا أَنْتَ ۝ اللَّهُمَّ يَا مَنْ وَهَبَ

مکرتاتہ . اے اللہ ! اے ہفہ ذاتہ چہ نصیب دکرو

لِسَيِّدِنَا آدَمَ سَيِّدِنَا شَيْثَ ۝ وَلِسَيِّدِنَا

زمونیر سردار آدم تہ شیث ، او زمونیر سردار

إِبْرَاهِيمَ سَيِّدِنَا إِسْمَاعِيلَ وَسَيِّدِنَا إِسْحٰقَ

ابراہیم تہ دنصیب کرو حضرت اسماعیل او حضرت اسحاق

وَرَدَّ سَيِّدِنَا يُوْسُفَ عَلٰی سَيِّدِنَا يَعْقُوْبَ

او واپس دکرو زمونیر سردار یوسف حضرت یعقوب تہ

وَيَا مَنْ كَشَفَ الْبَلَاءَ عَنْ سَيِّدِنَا

او اے ہفہ ذاتہ چہ لرے دکرو مصیبت د سردار زمونیر

أَيُّوْبَ ۝ وَيَا مَنْ رَدَّ سَيِّدِنَا مُوسٰى

ایوب او اے ہفہ ذاتہ چہ واپس دکرو زمونیر سردار موسیٰ

إِلَىٰ أُمِّهِ وَيَا زَايِدَ سَيِّدِنَا الْخَضِرَ فِي

خیلے مورثہ ، او اے زیا تونکیہ د حضرت خضر تہ

عِلْمِهِ ۝ وَيَا مَنْ وَهَبَ لِسَيِّدِنَا دَاوُدَ

بہ علم دہفہ کننے او اے ہفہ ذاتہ چہ ورد دکرو زمونیر سردار داؤد تہ

سَيِّدِنَا سَلِيْمَانَ ۝ وَلِسَيِّدِنَا زَكَرِيَّا سَيِّدِنَا

زمونیر سردار سلیمان او زمونیر سردار زکریا تہ زمونیر سردار

يَحْيٰى ۝ وَلِسَيِّدِنَا مَرْيَمَ سَيِّدِنَا عِيْسٰى

یحییٰ ، او زمونیر سردار بی بی مریم تہ زمونیر سردار عیسیٰ

وَيَا حَافِظَ ابْنَةِ سَيِّدِنَا شَعِيْبَ اَسْأَلُكَ

او اے ساتندونکیہ دلور د حضرت شعب ، زہ سوال کوم تانہ

أَنْ تُصَلِّيَ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی

چہ رحمت او لیرے زمونیر بہ سردار محمد باندرے او بہ

جَمِيْعِ النَّبِيّينَ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَيَا مَنْ

تولو نیانو او رسولا نو باندرے ، او اے ہفہ ذاتہ چہ

وَهَبَ لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

ورد دکرو زمونیر سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہ

وَسَلَّمَ الشَّفَاعَةَ وَالذَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ

شفاعت او بخینے ماتہ کناہونہ خما او پت کرے عیونہ خما

أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي وَتَسْتُرَ لِي عُيُوبِي

داچہ او بخینے ماتہ کناہونہ خما او پت کرے عیونہ خما

كُلِّهَا وَتُجِيبَ رَنِي مِنَ النَّارِ وَتُوجِبَ

تبول او پناہ رالہ را کرے ڈھورنہ او واجبہ کرے

لِي رِضْوَانِكَ وَأَمَانِكَ وَغُفْرَانِكَ وَ

مادپارہ رضامندي خپلہ او امان خپل او بخیننہ خپلہ او

إِحْسَانِكَ وَتُمَتِّعْنِي فِي جَنَّتِكَ مَعَ

احسان خپل او نفع مندم کرے بہ جنت خپل کنیے سرہ

الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

دھغہ خلقر چہ تا ورباندے انعام کرے دے دیغمبرانونہ

وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ

او صدیقانونہ او شہیدانونہ او صالحانونہ

إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَصَلَّى اللَّهُ

بیشکہ تہ پہ ہر شیز قدرت لرونکے نے . او رحمت داللہ دوی

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ مَا زَجَجْتَ

زہونیزہ سردار محمد باندمے او بہ آل دھغہ ترخوپورے چہ راپورتہ کوی

الرِّيَّاحِ سَحَابًا رُكَّامًا وَذَاقَ كُلَّ ذِي

ہواگانے ورنجے گنہے او شکی ہر صاحب

رُوحٍ حَمَامًا وَأَوْصَلَ لِسَلَامٍ لِأَهْلِ

دروح مرگ لہرہ او او رسوے سلام ہغہ خلقوتہ چہ

السَّلَامِ فِي دَارِ السَّلَامِ تَحِيَّةً وَسَلَامًا


دسلام اہل دی پہ دار السلام کنیے چہ ہغہ سلام دزونداو دسلامیتا دعوی

اللَّهُمَّ أَفْرِدْنِي لِمَا خَلَقْتَنِي لَهُ وَلَا

اے اللہ ماخقلہ کر ہغہ خہ دیارہ جاتازہ پیدا کر دے یم ہغے دیارہ اومسحرومہ کرے

تَشْعَلْنِي بِمَا تَكَلَّفْتَنِي بِهِ وَلَا تَحْرِمْنِي

مشغول مہ کرے بہ ہغہ خہ کنیے چہ تکفیل نی دھغہ مارہ بہ ہغہ سرہ اومسحرومہ کرے



وَأَنَا أَسْأَلُكَ وَلَا تُعَذِّبْنِي وَأَنَا

حال داچہ زہ سوال کوم لتانہ، او مالہ عذاب مہ راکومے حال داچہ

أَسْتَغْفِرُكَ ۝ ثَلَاثًا ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

زہ بخیننہ غوارم تانہ، درے خل داوانی، اے اللہ رحمت او لیرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ ۝

زمونیر پہ سردار محمد باندے اودھفوی پہ آل باندے او سلام

اللَّهُمَّ ارِنِي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ

باللہ زہ سوال کول لتانہ او متوجہ کیرم ستا طرفتہ

مُحِبِّبِكَ الْمُصْطَفَىٰ عِنْدَكَ يَا حَبِيبَنَا

پہ وسیلے دحبیب ستا چہ غورہ کرے شومے درے ستا پہ نزدایے حبیبہ زمونیر

يَا سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا إِنَّا نَتَوَسَّلُ بِكَ

اے سردارہ زمونیر محمد مونی و وسیلہ نیسو پتا سرہ پہ طرف

إِلَىٰ رَبِّكَ فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ الْمَوْلَى الْعَظِيمِ

درب ستا پس شفاعت او کرے زمونیر دبارہ د عظیم مولیٰ پہ و باندے

يَا نِعْمَ الرَّسُولَ الظَّاهِرُ ۝ اللَّهُمَّ شَفِّعْهُ

اے نیکلیہ پاکہ رسولہ، اے اللہ شفاعت قبول کرے دھغے زمونیر

فِينَا بِجَاهِهِ عِنْدَكَ ۝ ثَلَاثًا ۝ وَاجْعَلْنَا

دبارہ پہ طفیل دمرتے دھغے تاسرہ درے خل داوانی، او او گر خومے مونیہ

مِنْ خَيْرِ الْمَصْلُوبِينَ وَالْمَسْلُوبِينَ عَلَيْهِ ۝

دغورہ درود او سلام لیگونکو نہ پہ ہغہ باندے

وَمِنْ خَيْرِ الْمُقَرَّبِينَ مِنْهُ وَالْوَارِدِينَ

او د غورہ مقربینو نہ ہغہ سرہ او دورتلونکونہ

عَلَيْهِ وَمِنْ أَحْيَارِ الْمُجِيبِينَ فِيهِ

پہ ہغہ باندے او دغورہ محبت کونکونہ ہغہ سرہ

وَالْمَحْبُوبِينَ لَدَيْهِ ۝ وَقَرِّحْنَا بِهِ

او د محبوبانوںہ پہ نزد دھغہ، او خوشالہ کرے مونیہ ہغہ سرہ

فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ ۝ وَاجْعَلْهُ لَنَا

پہ میدان د قیامت کنے، او او گر خومے ہغہ مونیہ دبارہ

دَلِيلًا إِلَى جَنَّةِ التَّعْوِيرِ بِكَامُونَةٍ وَلَا

دليل دنعمتو نو جنت طرفته بغير ذمحت نه او بغير

مَشَقَّةٍ وَلَا مُنَاقَشَةٍ إِحْسَابًا جَعَلَهُ مُقْبِلًا

دمشقت نه او بغير دستختي دحساب نه او مے گر خوش متوجه كيدونك

عَلَيْنَا ○ وَلَا تَجْعَلْهُ غَاضِبًا عَلَيْنَا ○

به مونير باندمے . او مے ئے گر خوش غصه كونك به مونير باندمے

وَاعْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنا وَلِجَمِيعِ

او بخيشنه او كرمے مونير ته او زمونيره مورپلارته او تولو

الْمُسْلِمِينَ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْمَيِّتِينَ ○

مسلمانانوته كوم چه ژوندي دي په دوي كينے او كوم چه مړه دي او

أَخْرَجَ عَوْنًا إِنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

آخري دعاز مونيره داده چه تول تعريفونه الله دپاره دي چه پروردگار دعالمدے

إِبْتِدَاءُ الرَّبِّعِ الرَّابِعِ

دخلورم رُبع ابتداء

فَأَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا

پس سوال كوم لتانه امے الله امے الله امے الله امے ژونديه. امے

قِيَوْمٍ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ لَا إِلَهَ

قائمہ امے دجلال او دعزت خاوندہ نيشته هيخوك معبود

إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ

سوا ذاتانه ته باك ئے بيشكه يمه زهه ذ

الظَّالِمِينَ ○ أَسْأَلُكَ بِمَا حَمَلَ كُرْسِيُّكَ

ظلم كونكونه. سوال كوم تانه په وسيله دهغه چاسره چه او چته كرمے ئے

مِنْ عَظَمَتِكَ وَجَلَالِكَ وَبِهَائِكَ وَ

ده كرسی ستاستا دعظمت نه اوستا د جلال نه او ستا درنرانه او

قُدْرَتِكَ وَسُلْطَانِكَ وَبِحَقِّ أَسْمَائِكَ

ستا دقدرت نه او ستا دغلبے نه او په حق دنومونو ستا

الْمَخْرُونَةَ الْمَكْنُونَةَ الْمُطَهَّرَةَ الَّتِي
چه خرا نه شوي دي بت دي پاک دي چه

لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهَا أَحَدٌ مِّنْ خَلْقِكَ وَ
نه دي خسر په هغه باندې هيڅوک دمخلوق ستانه او

بِحَقِّ الْأَسْمَاءِ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى الْبَيْلِ
په حق دهغه نوم ستا چه تا کينودوپه شې باندې نوهغه

فَاطَمَ وَعَلَى النَّهَارِ فَاسْتَنَارَ وَعَلَى السَّمَوَاتِ
تیاره شوه اوپه ورځ باندې نوهغه روښانه شوه اوپه آسمانونو باندې

فَاسْتَقَلَّتْ ○ وَعَلَى الْأَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ ○
نوهغه مضبوط شول او په زمکه باندې نوهغه قرار او نیوؤ.

وَعَلَى الْبِحَارِ فَانْفَجَرَتْ ○ وَعَلَى الْعُيُونِ
او په دریا بونو باندې نو هغه جاري شول او په جینو باندې

فَنَبَعَتْ ○ وَعَلَى السَّحَابِ فَأَمْطَرَتْ ○
نو هغه راؤ خوتکيدې او په وریځو باندې نوهغه اووریدې

وَأَسْأَلُكَ بِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ فِي جِهَةِ
اوسوال کوم تانه په اوسیلې دهغه نومونوسره چه لیکلي شوي دي په تندي

سَيِّدِنَا جَبْرِئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالْأَسْمَاءِ
د سردار زمونیر جبریل علیه السلام. او په هغه نومونو سره چه

الْمَكْتُوبَةِ فِي جِهَةِ سَيِّدِنَا إِسْرَافِيلَ
لیکلي شوي دي په تندي د سردار زمونیر اسرافیل

عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَعَلَى جَمِيعِ الْمَلَائِكَةِ
عليه السلام او په تمامو فرشتو اوسوال

وَأَسْأَلُكَ بِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ
کوم تانه په وسیلې دهغه نومونو چه لیکلي شوي دي چا پیره دعرش نه

وَبِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْكُرْسِيِّ ○
اوپه هغه نومونوسره چه لیکلي شوي دي چا پیره دکرسی نه. اوسوال

وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ الَّذِي
کوم تانه په وسیلې دهغه نوم سره چه لونه دے اوډیر لونه دے کوم چه

سَمَّيْتِ بِهِ نَفْسَكَ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ اسْمَائِكَ

تا اینجی دے په خان خپل او سوال کوم تانه په وسیله دنو مونو ستا

كُلُّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ○ وَ

ټولو کوم چه ماته معلوم دي او کوم چه معلوم نه دي او سوال کوم

أَسْأَلُكَ يَا لَأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا

تانه په وسیله دهغه نومونو ستا چه ته رابللی ئے په هغه سره سردار زمونږ

أَدُمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا لَأَسْمَاءِ الَّتِي

آدم عليه السلام او په هغه نومونو سره

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ

چه ته رابللی ئے په هغه سره سردار زمونږ نوح عليه السلام

وَيَا لَأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا

او په هغه نومونو سره چه ته رابللی ئے په هغه سره سردار زمونږ

صَالِحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا لَأَسْمَاءِ الَّتِي

صالح عليه السلام او په هغه نومونو سره

دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

چه ته رابللی ئے په هغه سره سردار زمونږ يعقوب عليه السلام

وَيَا لَأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا يُوسُفُ

او په هغه نومونو سره چه ته رابللی ئے په هغه سره سردار زمونږ يوسف

عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا لَأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ

عليه السلام او په هغه نومونو سره چه ته رابللی ئے

بِهَا سَيِّدُنَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَ

په هغه سره سردار زمونږ يوسف عليه السلام او

يَا لَأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُنَا مُوسَى

په هغه نومونو سره چه ته رابللی ئے په هغه سره سردار زمونږ موسى

عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا لَأَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ

عليه السلام او په هغه نومونو سره چه ته رابللی ئے

بِهَا سَيِّدُنَا هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَ

په هغه سره سردار زمونږ هارون عليه السلام او



يَا أَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَاشِعِيبٍ

به هغه نومونوسره چه ته رابلله نه په هغه سره سردار زمونږ شعيب

عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا أَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ

عليه السلام. او په هغه نومونو سره چه رابلله نه ته

بِهِمَا سَيِّدُ نَا اِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○

په هغه سره سردار زمونږ ابراهيم عليه السلام

وَيَا أَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا اِسْمَاعِيلَ

اوپه هغه نومونوسره چه رابلله نه ته په هغه سره سردار اسماعيل

عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا أَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ

عليه السلام او په هغه نومونو سره چه رابلله نه ته

بِهِمَا سَيِّدُ نَا دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَ

په هغه سره زمونږه سردار داود عليه السلام او

يَا أَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا سُلَيْمَانَ

په هغه نومونوسره چه رابلله نه ته په هغه سره زمونږ سردار سليمان

عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا أَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ

عليه السلام. او په هغه نومونو سره چه رابلله نه ته

بِهِمَا سَيِّدُ نَا زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَ

په هغه سره زمونږه سردار زكريا عليه السلام او

يَا أَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا يَحْيَى

په هغه نومونو سره چه رابلله نه ته په هغه سره سردار زمونږ يحيي

عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا أَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ

عليه السلام. او په هغه نومونو سره چه رابلله نه ته

بِهِمَا سَيِّدُ نَا يُوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَ

په هغه سره زمونږه سردار يوسف عليه السلام او

يَا أَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا سَيِّدُ نَا الْخَضِرَ

په هغه نومونو سره چه رابلله نه ته په هغه سره سردار زمونږ خضر

عَلَيْهِ السَّلَامُ ○ وَيَا أَسْمَاءَ الَّتِي دَعَاكَ

عليه السلام. او په هغه نومونو سره چه رابلله نه ته

يَهَاسِيْدُ نَا اِلْيَاسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَ

پہ ہغے سرہ زمونیر سردار الیاس علیہ السلام او

بِاَلْاَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ يَهَاسِيْدُ نَا اِلْيَسَعُ

پہ ہغے نومونوسرہ چہ رابللے نے تہ پہ ہغے سرہ زمونیرہ سردار ایلسع

عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَ بِاَلْاَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ

علیہ السلام او پہ ہغے نومونو سرہ چہ رابللے نے تہ

يَهَاسِيْدُ نَا ذُو الْكِفْلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝

پہ ہغے سرہ زمونیر سردار ذوالکفل علیہ السلام

وَ بِاَلْاَسْمَاءِ الَّتِي دَعَاكَ يَهَاسِيْدُ نَا

او پہ ہغے نومونو سرہ چہ رابللے نے تہ پہ ہغے سرہ زمونیر سردار

عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ۝ وَ بِاَلْاَسْمَاءِ الَّتِي

عیسی علیہ السلام او پہ ہغے نومونو سرہ چہ

دَعَاكَ يَهَاسِيْدُ نَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

راابللے نے تہ پہ ہغے سرہ زمونیر سردار محمد صلی اللہ علیہ

وَسَلَّمَ نَبِيُّكَ وَرَسُولُكَ وَحَبِيْبُكَ

وسلم چہ ستا نبی دے او ستا رسول دے او ستا حبیب دے

وَصَفِيْبُكَ يَا مَنْ قَالَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ

اوستا غورہ کہے شوعے دے اے ہغے ذاتہ چہ ونیلے نے دی اووینا دھغہ

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ وَ لَا

حقہ دہ "او اللہ پیدا کری بی تاسو او کوم خہ چہ تاسو کوئی" او نہ

يَصْدُرُ عَنْ اَحَدٍ مِّنْ عِبَادِهِ قَوْلٌ وَّ

صادر یوری دھیجانہ پہ بندگانو دھغہ کنیے نہ خہ قول او

لَا فَعْلٌ وَّ لَا حَرَكَةٌ وَّ لَا سَكُوْنٌ اِلَّا

نہ خہ فعل او نہ حرکت او نہ سکون مگر ہغہ دمخکیش

وَقَدْ سَبَقَ فِيْ عِلْمِهِ وَقَضَايِهِ وَقَدْرِهِ

نہ وی پہ علم دھغہ کنیے او پہ قضا دھغہ کنیے او پہ قدر دھغہ کنیے

كَيْفَ يَكُوْنُ كَمَا اَلْهَمْتَنِيْ وَقَضَيْتَ

چہ خرنک بہ وی خنکہ چہ تالہام وکرہ ماتہ او حکم داو کپرو

لِيَجْمَعِ هَذَا الْكِتَابَ وَيَسِّرَتْ عَلَيَّ

ما دباره په جمع كولو ددې كتاب او آسان ذكره راله

فِيهِ الطَّرِيقَ وَالْأَسْبَابَ وَنَفَيْتَ عَنِّي

په دې كښې طريقه او اسباب او متاؤ ذكره خما

قَلْبِي فِي هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ الشَّاكِّ

دزړه نه په باره ددې نبي كريم كښې شك

وَالْإِسْرَافِ وَغَلَبَتْ حُبَّهُ عِنْدِي عَلَى

او شبه او غالب دكرو محبت دهغه خما په نزديه

حُبِّ جَمِيعِ الْأَقْرَبَاءِ وَالْأَحْبَاءِ أَسْأَلُكَ

محبت دټولو اقرباؤ او دوستانو سوال كوم لسانه

يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ أَنْ تَرزُقَنِي وَ

اي الله اي الله اي الله چه را نصيب كړې ماته او هر هغه كس ته چه محبت

كُلِّ مَنْ أَحَبَّهُ وَاتَّبَعَهُ شَفَاعَتَهُ وَ

ساتي حضرت سره او دهغوي پيروي كوي شفاعت دهغوي او

مُرَافَقَتَهُ يَوْمَ الْحِسَابِ مِنْ غَيْرِ مُنَاقَشَةٍ

ملگرتيا دهغوي د حساب په ورځ بغير د سختي نه

وَلَا عَذَابٍ وَلَا تَوْبِيخٍ وَلَا عِتَابٍ وَ

او بغير د عذاب نه او بغير د رتښه نه او بغير د زور نه او

أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي وَتَسْتُرَ عَيْبِي يَا

داچه او بخښې ماته گناهونه خما او پټ كړې عيبونه خما اي

وَهَابُ يَا غَفَّارُ ○ وَأَنْ تُنْعِمَ مِنِّي بِالنَّظَرِ

دور كړې خاوند اي بخښونكيه او داچه نعمت راباندې و كړې دنظر كولو

إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ فِي جُمْلَةِ الْأَحْبَابِ

خپل ذات مبارك ته سره د ټولو دوستانو

يَوْمَ الْمَزِيدِ وَالْثَوَابِ وَأَنْ تَتَقَبَّلَ

په ورځ د زياتي انعام او د ثواب او داچه قبول كړې

مِنِّي عَمَلِي وَأَنْ تَعْفُو عَمَّا أَحَاطَ بِعِلْمِكَ

خمانه عمل خما او داچه معاف كړې هغه چه احاطه كړې ده علم ستا

بِهِ مِنْ حَظِيَّتِي وَنَسِيَانِي وَرَلِي وَ

بہ ہفتے سرہ خما دخطاگانو او خما ڈھیرو او خما دلغزش او داچہ

أَنْ تُبَلِّغَنِي مِنْ زِيَارَةِ قَبْرِهِ وَالسَّلَامِ

اورسوے ما دھغوی د قبر زیارت لہ او سلام کولو لہ بہ ہغوی بانڈے

عَلَيْهِ وَعَلَى صَاحِبِيهِ غَايَةَ آمَلِي بِمَنِّكَ

اودھغوی بہ دوار و ملگرو بانڈے انتہائی امیدخما دے سرہ د احسان

وَفَضْلِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ يَا رَوْوُ

ستا او دفضل ستا او دستخاوت ستا او دکرم ستا اے ڈیر مہربانہ اے

يَا رَحِيمُ يَا وَدِي ۝ وَأَنْ تُجَاوِزَ عَنِّي

ڈیررحم کونکیہ اے مددگار او داچہ بدلہ ور کرے ہغوی تہ خما د طرفہ

وَعَنْ كُلِّ مَنْ آمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ مِنْ

اودھرہفہ چاد طرفہ چہ ایمان تے راورے دے بہ ہغوی بانڈے او پیروینے

الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ

کرے دہ دمسلماتو سر و نہ او مسلماتو بنخو نہ کوم چہ ژوندی دی دھغوی تہ

وَالْأَمْوَاتِ أَفْضَلَ وَأَتَمَّ وَأَعَمَّ مَا

او کوم چہ سرہ دی ڈیر غورہ او ڈیر مکمل او ڈیر عام ہفتہ چہ

جَازَيْتَ بِهِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ يَا قَوِيُّ

جز اور کرے دہ تا بہ ہفتے سرہ یوکس تہ د مخلوق خیل نہ اے طاقتور

يَا عَزِيزُ يَا عَلِيُّ وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِحَقِّ مَا

اے غالبہ اے او چتہ او سوال کوم لتانہ اے اللہ بہ حق دھغہ چا

أَقْسَمْتُ بِهِ عَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ سَيِّدِنَا

چہ وسیلہ م نیولے دہ بہ ہفتے سرہ تاتہ چہ درود اولیکہ بہ سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

محمد بانڈے او بہ آل د سردار زمونیر محمد بانڈے بہ شمار

مَا خَلَقْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكُونَ السَّمَاءُ

دھغے چہ تا پیدا کری دی مخکنے ددے نہ چہ آسمان

مَبْنِيَّةٍ وَالْأَرْضِ مَدْحِيَّةٍ وَالْجِبَالِ

چور شوے وو او زمکہ غور بدلے وہ او غرونہ

عُلُوِيَّةٌ وَالْعِيُونُ مُنْفَجِرَةٌ وَالْبَحَارُ

او چت شوي وو او چينے جاري شوع وے او دريا بولہ

مُسَخَّرَةٌ وَالْأَنْهَارُ مِنْهُمْ رَمَّةٌ وَالشَّمْسُ

تابع د حکم وو او نھرونہ روان شوي وو اونہر

مُضِيَّةٌ وَالْقَمَرُ مُضِيئًا وَالنَّجْمُ مُنِيرًا

رو بٹانہ شوع وو او سپورھي نوراني شوع وھ او ستوري خليلدي وو

وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ حَيْثُ تَكُونُ إِلَّا أَنْتَ

اونہ وھ معلومہ ھيجانہ چہ خنکہ دي مکر تاتہ او داچہ رحمت او ليرے

وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ كَلَامِكَ

پہ ہغوي باندي او دھغوي پہ آل باندي پہ شمار د کلام خيل او داچہ

وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ آيَاتِ

رحمت اوليرے پہ ہغوي باندي او دھغوي پہ آل باندي پہ شمار د آيتونو

الْقُرْآنِ وَحُرُوفِهِ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ

د قرآن او دھرفونو دھغہ او داچہ رحمت او ليرے پہ ہغوي باندي او

عَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ مَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَأَنْ

پہ آل دھغوي پہ شمار دھغہ چاچہ درو دليري پہ ہغوي باندي او داچہ رحمت

تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ

اوليرے پہ ہغوي باندي او پہ آل دھغوي پہ شمار دھغہ چاچہ درود نہ ليري

عَلَيْهِ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ مِنْ

پہ ہغوي باندي او داچہ رحمت اوليرے پہ ہغوي باندي او پہ آل دھغوي پہ

أَرْضِكَ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ

د کوالي دزمکے ستا او داچہ رحمت اوليرے پہ ہغوي باندي او پہ آل دھغوي پہ

عَدَدَ مَا جَرَىٰ بِهِ الْقَلَمُ فِي أُمَّ الْكِتَابِ

پہ شمار دھغہ چہ جاري شوع دے وري باندي قلم پہ لوح محفوظ کينے

وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ مَا

او داچہ رحمت او ليرے پہ ہغوي باندي او پہ آل دھغوي پہ شمار دھغہ

خَلَقْتَ فِي سَبْعِ سَمَوَاتِكَ ○ وَأَنْ

چہ تاپيدا کري دي پہ اوو آسمانونو خيلو کينے او داچہ

تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَّةٌ مَّا أَنْتَ خَالِقُهُ

رحمت اولیوں پہ ہغوی باندے او پہ آل دھغوی پہ شمار دھغہ خیزو نو چہ

فِيهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ

تہ خالق دھغوی نے پہ دوی کنیے دقیامت ترورخ پورے پہ ہرہ ورخ کنیے

مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَّةٌ

زرخلے او داچہ رحمت اولیوں پہ ہغوی باندے او پہ آل دھغوی پہ شمار

قَطْرِ الْمَطَرِ وَكُلِّ قَطْرَةٍ فَطَرْتُ مِنْ

د شاخکو دبارون او دھر ہغہ شاخکی چہ راوریدلے دے ستا

سَمَاوِكَ إِلَىٰ أَرْضِكَ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ

د آسمان نہ ستا زمکے طرفتہ د کومے ورخ نہ چہ تا پیدا کرے دہ

الدُّنْيَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ

دنیا د قیامت تر ورخ پورے پہ ہر ورخ کنیے

أَلْفَ مَرَّةٍ ۝

زہ خلیے

الْحَزْبُ السَّابِعُ فِي يَوْمِ الْاِحْدَىٰ

اوم حزب د اتوار دورخے

وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَّةٌ مِّنْ سَبْحِكَ

اوداچہ درود اولیوں پہ ہغوی باندے او دھغوی پہ آل باندے پہ شمار دھغہ

وَقَدْ سَكَتَ وَسَجَدَ لَكَ وَعَظَّمَكَ مِنْ

چاچہ ستا سبیح نے ویلے دے اوستا پا کوالے نے بیان کرے دے اوتانہ نے سجدہ

يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي

کرے دہ اوستا لونی نے بیان کرے دہ دھغے ورخ راسے چہ تانیا پیدا کرے دہ

كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ

دقیامت ترورخ پورے پہ ہرہ ورخ کنیے زرخلے او داچہ رحمت اولیوں پہ

وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَّةٌ كُلِّ سَنَةٍ خَلَقْتَهُمْ فِيهَا

ہغوی باندے او دھغوی پہ آل باندے پہ شمار دھر کال چہ تا پیدا کرے دی

مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

ہغوی پہ ہغے کنیے دھغہ ورخ نہ چہ تانیا پیدا کرے دہ دقیامت ترورخ پورے

فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ

به هره ورخ کنی زرخلی. او داچه رحمت اولیر

عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِلَيْهِ عَدَدَ السَّمَاوَاتِ الْجَارِيَةِ

به هغوی باندی او دهغوی په آل باندی به شمار دروانی ورین

وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِلَيْهِ عَدَدَ الرِّيَّاحِ

او داچه رحمت اولیر به هغوی باندی به شمار دبا دونو

الدَّارِيَةِ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى

الوونکو دکومی ورخ نه چه تا دنیا پیدا کره ده تر

يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝

ورخ قیامت پوری به هره ورخ کنی زرخلی.

وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِلَيْهِ عَدَدَ مَا

اوداچه رحمت اولیر به هغوی باندی او په آل دهغوی به شمار دهغه

هَبَّتِ الرِّيَّاحُ عَلَيْهِ وَحَرَّكَتُهُ مِنْ

غیزونو چه چلیبری هواکانی به هغی باندی.

الْأَغْصَانِ وَالْأَشْجَارِ وَأوراقِ الثَّمَرِ

دشانگونی او داوونو نه او د پانوونه او دمیوونه

وَالْأَزْهَارِ وَعَدَدَ مَا خَلَقْتَ عَلَى قَرَارِ

او د گلونو نه او په شمار دهغه چه تا پیدا کری دی په مخ

أَرْضِكَ وَمَا بَيْنَ سَمَوَاتِكَ مِنْ يَوْمٍ

دزمکنی ستا او په مینخ د اسمانونو ستا کنی دکومی ورخ نه چه

خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ

تا پیدا کره ده دنیا دقیامت تر ورخ پوری به هره

يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ

ورخ کنی زرخلی. او داچه رحمت اولیر به هغوی باندی او

عَلَى إِلَيْهِ عَدَدَ مَا وَجَّحَ بِحَارِكَ مِنْ يَوْمٍ

په آل دهغوی به شمار د چو دریاونو ستا دکومی ورخ نه

خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ

چه تا دنیا پیدا کره ده د قیامت تر ورخ پوری به هره

يَوْمِ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ

ورخ كنبے زرخلے . او داچه رحمت او لیبے په هغوی باندمے او

عَلَى إِلِهِ عَدَدَ الرَّمْلِ وَالْحَصَى وَكُلِّ حَجْرٍ

په آل دهغوی په شمار د شكواو كوت كانرو او دهر كانبري

وَمَدْرٍ خَلَقْتَهُ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَ

او دهرے لوتیرے چه تا پیدا كمرے ده دزمكے په مشرقونو كنبے او

مَغَارِ بِهَا سَهْلُهَا وَجِبَالُهَا وَأُودِيَّتُهَا

دهغے په مغربونو كنبے دهغے په نومه حصے كنبے او دهغے په عزونو كنبے او دهغے په

مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

خوردونو كنبید كومے ورخ نه چه تا دنیا پیدا كمرے ده دقیاقت تر ورخ پورے

فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ

په هره ورخ كنبے زرخلے . او داچه رحمت او لیبے

عَلَيْهِ وَعَلَى إِلِهِ عَدَدَ نَبَاتِ الْأَرْضِ

په هغوی باندمے او په آل دهغوی په شمار د شینكو دزمكے

فِي قِبَلَتِهَا وَجُوفِهَا وَشَرْقِهَا وَغَرْبِهَا وَ

په دقلے دهغے كنبے او په خپته دهغے كنبے او دمشرق دهغے كنبے او

سَهْلُهَا وَجِبَالُهَا مِنْ شَجَرٍ وَشَمْرٍ وَ

دمغرب دهغے كنبے او په نومه دهغے كنبے او په غرونو دهغے كنبے د اونونه

أُورَاقٍ وَزُرْعٍ وَجَمِيعِ مَا أَخْرَجَتْ وَمَا

او دمیونونه او دپانرونه او دفصلونونه او په شمار دتولوهغه خیزونو چه ترینه راوتی

يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ نَبَاتِهَا وَبَرَكَاتِهَا مِنْ

دې او هغه چه راؤخي به ددمے نه د شینكو ددمے نه او دبر كتونو ددمے نه

يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي

د كومے ورخے نه چه تا پیدا كمرے ده دنیا د قیاقت تر ورخ پورے په

كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ

هره ورخ كنبے زرخلے . او داچه رحمت او لیبے په هغوی باندمے

وَعَلَى إِلِهِ عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنَ الْإِنْسِ

او په آل دهغوی په شمار دهغے چه تا پیدا كری دې د بنیادمونو

وَالْجِنَّ وَالشَّيَاطِينَ وَمَا أَنْتَ خَالِقُهُ

او دهریانو نه او دشیطانانو نه او په شمار دهغه څه چه ته پیدا کونکې نه

مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ

دهغوی نه د قیامت تر ورځ پورې په هره ورځ کښې

أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى

زرځلې. او داچه رحمت او لیرې په هغوی باندې او په آل دهغوی

إِلَيْهِ عَدَدَ كُلِّ شَعْرَةٍ فِي أَبْدَانِهِمْ وَ

په شمار د هرو یښته په بدنونو دهغوی کښې او په مخونو دهغوی

وَجُوهِهِمْ وَعَلَى رُءُوسِهِمْ مُنْذُ خَلَقْتَ

کښې او په سرونو دهغوی کښې د کوم وخت نه چه تا پیدا کړې ده

الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ

دنیا د قیامت تر ورځ پورې په هره ورځ کښې

أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى

زرځلې. او داچه رحمت او لیرې په هغوی باندې او په

إِلَيْهِ عَدَدَ أَنْفُسِهِمْ وَالْفَاظِهِمْ وَالْحَاظِهِمْ

آل دهغوی په شمار دساه گانو دهغوی او ذالفاظ دهغوی او ذکنلو دهغوی

مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

د کومې ورځ نه چه تا دنیا پیدا کړې ده د قیامت تر ورځ پورې

فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ

په هره ورځ کښې زرځلې. او داچه رحمت او لیرې

عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَيْهِ عَدَدَ طَيْرَانِ الْجَنِّ وَ

په هغوی باندې او دهغوی په آل باندې په شمار دالو تلو د پیریانو او

خَفَقَانِ الْأَنْسِ مِنْ يَوْمِ خَلَقْتَ

د حرکتونو د انسانانو د کومې ورځ نه چه تا دنیا

الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ

پیدا کړې ده د قیامت تر ورځ پورې په هره ورځ کښې

أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى

زرځلې. او داچه رحمت او لیرې په هغوی باندې او په

إِلَهُ عَدَدَ كُلِّ بَهِيمَةٍ خَلَقْتَهَا عَلَى أَنْصِكَ

آل دهغوی په شمار دهر خلورخه لرونکی خاروي چه تا پیدا کړي دي په

صَغِيرَةً وَكَبِيرَةً فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ

خپله زمکه که ورکوته وي که لونه وي د زمکه په مشرقونو کښه

وَمَغَارِبِهَا مِمَّا عِلْمٌ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُ عِلْمَةً

اودهغه په مغربونو کښه کوم چه معلوم شوي دي اود کومو علم چه نسته

إِلَّا أَنْتَ مِنْ يَوْمٍ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى

چاته مکر تاته دغه د کومو ورخ نه چه تا دنيا پیدا کړه دهر

يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ

ورخ د قیامت په هره ورخ کښه زرخله اوداچه رحمت اولیر په

وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ مَنْ

دهغوی او په آل دهغوی په شمار دهغه چا چه درود نه لیکله دغه په

صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَعَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَ

دهغوی بانده او په شمار دهغه چاچه درود نه دغه لیکله په هغوی او

عَدَدَ مَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي

په شمار دهغه چاچه درود نه لیکلي په هغوی بانده د قیامت تر ورخ پور په

كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ مَرَّةٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ

هره ورخ کښه زرخله او داچه رحمت اولیر په هغوی

وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ وَ

بانده او په آل دهغوی په شمار د ژوند او د مړو او

عَدَدَ مَا خَلَقْتَ مِنْ جِبْتَانٍ وَطَيْرٍ

په شمار دهغه کبانو چه تا پیدا کړي دي اود مارغانو

وَنَمْلِ وَنَحْلِ وَحَشْرَاتٍ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ

اودمیر او د شاتو مچو اود زمینی چينجو اوداچه رحمت اولیر په هغوی

عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ فِي الْبَيْتِ إِذَا بَغِثَ وَالنَّهَارِ

بانده او په آل دهغوی په شپه کښه کله چه راخوره شي او په ورخ کښه

إِذَا تَجَلَّ ۝ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ

کله چه روښانه شي اوداچه رحمت اولیر په هغوی بانده او په آل دهغوی

فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ○ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ

پہ آخرت کنبے او پہ دنیا کنبے۔ او داچہ درود اولیہ پہ دھغوی باندے او پہ آل

وَعَلَىٰ إِلَيْهِ مُنْذُ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا

دھغوی دھغہ وخت راسے چہ کلہ و وہہ خانگہ کنبے ماشوم تردے پورے چہ

إِلَىٰ أَنْ صَارَ كَهْلًا مَّهْدِيًّا فَقَبِضَتْهُ

پوخ عمسرتہ او رسیدو لاریبو دونکے نوتا راؤ بللو خیل خان طرفہ پہ دے

إِلَيْكَ عَدْلًا مَرْضِيًّا لِتَبْعَتِهِ شَفِيعًا

حال کنبے چہ عدل کونکے ووراضی کرے شوے وو دیارہ ددے دچہ تہے

حَفِيًّا ○ وَأَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِلَيْهِ

راہاسوے شفاعت کونکے مہربان' او داچہ رحمت او لیبے پہ دھغوی باندے

عَدَدَ خَلْقِكَ وَرَضَىٰ نَفْسِكَ وَزِينَةَ

او دھغوی پہ آل باندے پہ شمار دمخلوق خیل او پہ رضا کیدلوذات خیل او پہ

عَرْشِكَ وَيَدَا دِكِّمَا تِكَ وَأَنْ تُعْطِيَهُ

وزن د عرش خیل او پہ مقدار دسیاہی د کلمو خیلو' او داچہ ور کرے دھغوی تہ

الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالذَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ

وسیلہ او فضیلت او درجہ او چتہ

وَالْحَوْضَ الْمُرُودَ وَالْمَقَامَ الْمَحْمُودَ

او حوض د ورتلوخاے او مقام محمود

وَالْعِزَّ الْمَدُودَ وَأَنْ تُعْظِمَ بُرْهَانَهُ وَ

او عزت دائمی او داچہ عظیم کرے دلیل دھغوی او

أَنْ تُشْرِفَ بِنِيَانِهِ وَأَنْ تَرْفَعَ مَكَانَهُ وَ

چہ عزتمند کرے بنیاد دھغوی او چہ او چت کرے مکان دھغوی او

أَنْ تَسْتَعْمِلَنَا يَا مَوْلَانَا بِسُنَّتِهِ وَأَنْ

داچہ استعمال کرے مونیرے زمونیرہ مولی' دھغوی پہ طریقہ باندے او

تُمِيتَنَا عَلَىٰ مِلَّتِهِ ○ وَأَنْ تَحْشُرْنَا فِي

داچہ مرگ راولے مونیرہ پہ ملت دھغوی. او داچہ را پاسو مونیرہ پہ

زُمْرَتِهِ وَتَحْتَ لَوَائِيهِ وَأَنْ تَجْعَلَنَا

دلہ دھغوی کنبے اولاندے دہ جھنلے دھغوی تہ او داچہ او کر خوسے مونیرہ

مَنْ رُفِقَ بِهِ وَأَنْ تُورِدَ نَاحِوْضَهُ وَأَنْ

دهغوی د ملکرونه او داچه ورولے مونیره دهغوی حوض ته او داچه

تَسْقِيْنَا بِكَاسِهِ وَأَنْ تَتَفَعَّلَ بِمَحَبَّتِهِ وَ

او خکوم په مونیره دجام دهغوی نه او داچه نفع را کره مونیره په محبت

أَنْ تَتُوبَ عَلَيْنَا وَأَنْ تُعَافِيَنَا مِنْ

دهغوی سره او داچه توبه قبول کره زموږ او داچه عافیت را کره مونیره ته

جَمِيعِ الْبَلَاءِ وَالْبُؤَاءِ وَالْفِتَنِ مَا ظَهَرَ

د ټول بلاکانو او آفتونو او د فتنو کوم په ظاهره شوم دي

مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَأَنْ تُرْحَمَنَا وَأَنْ

په هغه کښه او کوم په پټه دي او داچه رحم او کره په مونیره او داچه

تَعْفُوَعْنَا وَتَغْفِرَ لَنَا وَجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ

معافي او کره مونیره او بخښنه او کره مونیره او ټولو مومنانو سره ته

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

او مومنانو ښځوته او مسلمانانو سره ته او مسلمانانو ښځوته

ذکر الالحیات

۳۳۱

الحزب السابع

الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

کوم چه ژوندي دي په هغوی کښه او کوم چه مړه دي او ټول تعريفونه خاص

رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ

الله دپاره دي چه رب دمخلو قاتو ده. او هغه کافي ده مادپاره او ډیر ښه

الْوَكِيلُ وَالْأَحْوَلُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

کلوساز ده او نښته ده طاعت گناه نه دېچ کيلولو نښته ده قوت دنيکی کولومگر

الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

په توفیق دالله سره چه ډیرو لوت او ډیرو کم ده. ای الله رحمت اولیر په سردار زموږ

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا سَجَّتِ

محمديانله او په آل سردار زموږ محمديانله ترخوپور چه اولزونه کوي

الْحَمَائِمُ وَحَمَتِ الْخَوَائِمِ وَسَرَّحَتِ الْبَهَائِمِ

کونتره او چکره وهي مار غان او خریدل کوي بخاروي

وَتَفَعَّتِ التَّمَائِمُ وَشَدَّتِ الْعَمَائِمُ وَ

او نفع ورکوي تعمیزونه او تره کيږي پټکی او

نَمَتِ النَّوَائِمُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

او تو کبیری تو کیلونکی خیزونه. اے اللہ رحمت اولیبرے په سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَا أُبْلِجُ

محمد باندمے او په آل د سردار زمونیر محمد باندمے ترخوپورے چه رویشانه

الْأَصْبَاحُ وَهَبَّتِ الرِّيحُ وَدَبَّتِ الْأَشْيَاطُ

کبیری صبا او چلیبری هواگانے او خوزی بدنونه

وَتَعَاقَبَ الْغَدُّ وَالرَّوَّاحُ وَتَقَلَّدَتِ

او پرله پسه راخی سحر او ماہنام او زوړندولے شی

الصَّفَا حُ وَأَعْتَقَلَتِ الرِّمَاحُ وَصَحَّتِ

تورے او پریبودے کبیری نیزم او درست اوسی

الْأَجْسَادُ وَالْأَرْوَاحُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

بدنونه او روحونه. اے اللہ رحمت اولیبرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

زمونیر په سردار محمد باندمے او په آل د سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ مَا دَارَتْ الْأَفْلاكُ وَدَجَّتِ

محمد باندمے ترخوپورے چه گردش کوي آسمانونه او تورے اوسی

الْأَحْلاكُ وَسَبَّحَتِ الْأَمْلاكُ ۝

تبارے شپه او تسبیح کوي ملائک

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اے اللہ رحمت اولیبرے په سردار زمونیر محمد باندمے او په

آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى

آل د سردار زمونیر محمد باندمے څنگه چه تا رحمت لیبرے دے په

سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

سردار زمونیر ابراهیم باندمے او برکت اولیبرے په سردار زمونیر محمد باندمے

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ

او په آل د سردار زمونیر محمد باندمے څنگه چه برکت لیبرے دے تا

عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ

په سردار زمونیر ابراهیم باندمے په عالموکنه بيشکه ته

حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا

دیرستایله شوم دیزرگئی والاتر. اے اللہ رحمت اولیومے پہ سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّا

محمد باندے او په آل د سردار زمونیر محمد باندے تر خو پورے

طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَمَا صُلِّيَتْ اِلَّا

چه نمرختل کوی او ترخو پورے چه کولے شی پنخه مونخونه

وَمَا تَلَقَّ بَرْقٌ وَتَدَقَّقَ وَدَقُّ وَمَا سَبَّحَ

اوترخو پورے چه خلیری برینسا او زریری باران اوترخو پورے چه تسبیح وائی

رَعْدٌ ۝ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

رعد. اے اللہ رحمت او لیومے پہ سردار زمونیر محمد باندے

وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِّنَ السَّمٰوٰتِ

او په آل د سردار زمونیر محمد باندے په دکوالی د آسمانونو

وَالْاَرْضِ وَمِنْ مَّابَيْنَهُمَا وَمِنْ مَّا شِئْتَ

او دزمکے او په دکوالی دمایین ددونی او په دکوالی دهغه خه چه

مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ۝ اَللّٰهُمَّ كَمَا قَامَ

ته نئے غوارے ددے نه پس. اے اللہ چه خنکھ هغه ولا پروو

بِاَعْبَاءِ الرِّسَالَةِ وَاسْتَنْقَذَ الْخَلْقَ مِنْ

درسالت بار رسولوته او وے ویستل خلق د

الْجَهَالَةِ وَجَاهَدَ اَهْلَ الْكُفْرِ وَالضَّلٰلَةِ

جهالت نه او او جنکیدو کافرانو سره او گمراهانو سره

وَدَعَا اِلٰى تَوْحِيدِكَ وَقَاسَى الشَّدَّ اِيْدِيَّ

او بلنه نئے او کره ستا توحید طرفته او برداشت نئے کره سختیانے په

اِرْشَادِ عَيْدِكَ فَاَعْطِهِ اللّٰهُمَّ سُوْلَهُ

لارشدونه کنه ستابندگانونه نو ورکره ورله اے اللہ غوبنسته دهغوی

وَيَلِّغْهُ مَأْمُوْلَهُ وَاِيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ

او وے رسوے مقصود خیل ته او ورکره ورله وسیله او فضیلت

وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَاَبْعَثْهُ الْمَقَامَ

او درجه او چته او پاسوے هغه مقام

المحمود الذي وعدته انك لا تخلف

محمود ته چه وعده دکرے ده ورسره بیشکه ته خلاف نه کوم

الوبعاد اللهم واجعلنا من

ذو عدے. اے الله او او گرخومے مونیره د پیروی کونکو نه

المتبعين لشريعته المتصفين بحبته

د شریعت دهغوی متصف کیدونکی د محبت دهغوی هدایت

المهتدين بهديه وسيرته وتوفنا

مونلونکی هدایت دهغوی حاصلونکی دسیرت دهغوی اووفات راکرے راته

على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته

په طریقے دهغوی او مونیره محروم نه کرے دفضیلت دشفاعت دهغوی نه

واحشرنا في اتباع الغر المحجلين

اوز مونیره حشر اکرے دهغوی پیروی کونکو کینے چاتندی اولاس خپے به چه خلیبری

واشياعه السابقين واصحاب اليمين

اوپه جلد دهغوی کینے چه تلولونه بهمخکنے وی اوجه عملنامه بهور کرے کیبری په بنی لاس کینے

يا ارحم الراحمين اللهم صل

اے دهرچا نه زیات رحم کونکیه. اے الله رحمت اولیرے

على ملائكتك والمقربين وعلى

په خپلو ملائکو باندمے او په مقربوباندمے او په

انبيائك والمرسلين وعلى اهل

نبیانو خپلو او په رسولانو او په طاعت

طاعتك اجمعين واجعلنا بالصلاة

کونکو خپلو تولو باندمے او مونیره او گرخومے په درود لیکلوباندمے

عليهم من المرحومين اللهم

په هغوی باندمے درحم کرے شوونه. اے الله

صل على سيدنا محمد المبعوث

رحمت اولیرے په سردار زمونیر محمد باندمے شوک چه لیکلے شومے دے

من تهامة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر

دمکے نه او حکم کونکے دے دنیکو کارونو او داستقامت په دین باندمے

وَالشَّفِيعِ لِأَهْلِ الدُّنُوبِ فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ

او شفاعت کونکے گنہگارو دپارہ د قیامت پہ میدان کنے

اللَّهُمَّ أبلغ عَنَّا نَبِيَّنَا وَشَفِيعَنَا وَ

اے اللہ او رسوے زمونیر دطرفہ زمونیر نبی تہ او زمونیر شفیع تہ او

حَبِيبَنَا أَفْضَلَ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ

زمونیر محبوب تہ غورہ درود او سلام

وَإِعْتَهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الْكَرِيمِ

او پورتہ نے کہے بہ مقام محمود کنے چہ دیر اعلیٰ دے

وَآيَةَ الْفَضِيلَةِ وَالْوَسِيلَةَ وَالذَّرَجَةَ

او ورکے ورتہ فضیلت او وسیلہ او درجہ

الرَّفِيعَةَ الَّتِي وَعَدْتَهُ فِي الْمَوْقِفِ

اوجتہ دکومے چہ دور سرہ وعدہ کہے دہ پہ مینخ دخانے

الْعَظِيمِ ۝ وَصَلِّ لِلَّهِمَّ عَلَيْهِ صَلَاةً

اوجت کنے اور رحمت اولیرے اے اللہ پہ ہغوی باندے داسے رحمت

دَائِمَةً مُتَّصِلَةً تَتَوَالَى وَتَدُومُ ۝

چہ ہمیشہ وی پیوست وی بلہ ہسے او ہمیشہ وی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ مَا لَاحَ

اے اللہ رحمت اولیرے پہ ہغوی باندے او بہ آل دہغوی تر خوہورے

بَارِقٌ وَذَرَّ شَارِقٌ وَوَقَبَ غَاسِقٌ وَ

چہ خلیبری بجلی او راؤخی نمر او تیارہ کیری شہ او

انْهَمَ وَادِقٌ ۝ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ

وربیری وریخہ او رحمت اولیرے پہ ہغوی باندے او بہ

إِلَيْهِ مِنْ اللُّوْحِ وَالْفَضَاءِ وَمِثْلِ نُجُومِ

آل دہغوی پہ دکوالی دلوح اودفر احوالی دزمکے او پہ مثل دستورو

السَّمَاءِ وَعَدَدِ الْقَطْرِ وَالْحَصَىٰ وَصَلِّ عَلَيْهِ

دآسمان او بہ شمار دشاخکو اودکوت کاترو او رحمت ہرے اولیرے

وَعَلَىٰ آلِهِ صَلَاةً لَا تَعُدُّ وَلَا تُحْصَىٰ ۝

او بہ آل دہغوی داسے رحمت چہ نہ نے شمار وی او نہ پورہ والے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ زِينَةَ عَرْشِكَ وَمَبْلَغَ

ایے اللہ رحمت اولیبرے پہ ہغوی باندے پہ برابری دوزن دعرش خیل او

رِضَاكَ وَوِدَادَ كَلِمَاتِكَ وَمُنْتَهَى رَحْمَتِكَ

پہ انلازے درضاستاویہ برابر والی دسیاہی دکلماتوستاویہ انتھی درحمت ستا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ

ایے اللہ رحمت اولیبرے پہ ہغوی باندے اوپہ آل دہغوی اوپہ بییانو

وَذُرِّيَّتِهِ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَ

دہغوی اوپہ اولاد دہغوی اوپرکت اولیبرے پہ ہغوی باندے اوپہ آل دہغوی

أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ

اوپہ بییانو دہغوی اوپہ اولاد دہغوی خنکہ چہ درحمت لیگلے دے اوپرکت

عَلَىٰ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا

دلیرے دے پہ سردار زمونیر ابراہیم باندے اوپہ آل د سردار زمونیر

إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ۝ وَجَارِهِ

ابراہیم باندے بیشکہ تہ دیرستایلی شومے دبزرگی والائے او جزا ور کرے ور تہ

عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ نَبِيًّا عَن أُمَّتِهِ

زمونیر دطرفنہ ہغہ بہترہ جزا چہ تاور کرے دہ یونی تہ دخیل امت د طرفہ

وَاجْعَلْنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ بَيْنَهَا جِ

او مونیرہ او کرخومے پہ ہدایت موندونکو کنیے پہ لارہ

شَرِيْعَتِهِ وَاهْدِنَا بِهَدْيِهِ وَتَوْفِقِنَا عَلَىٰ

دشریعت دہغوی او مونیرہ او چلومے پہ سیرت دہغوی او وفات رالہ راکرے

مِلَّتِهِ وَاحْشُرْنَا يَوْمَ الْقَزَعِ الْأَكْبَرِ

پہ ملت دہغوی او مونیرہ را پاسومے پہ ورخ دہغہ لونے یومے

مِنَ الْأَمِينِينَ فِي زُمْرَتِهِ وَأَمْتِنَا عَلَىٰ

دامن والاونہ پہ دلہ دہغوی کنیے او مرک رالہ راکرے پہ

حُبِّهِ وَحُبِّ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ۝

محبت دہغوی اوپہ محبت دہغوی او داصحابو دہغوی او دا اولاد دہغوی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ

ایے اللہ رحمت اولیبرے پہ سردار زمونیر محمد باندے شوک چہ غورہ دے

أَنْبِيَاكَ وَ أَكْرَمَ أَصْفِيَاكَ وَ إِمَامَ

بہ بنیانوستا کنیے او دیر غورہ دے بہ غورہ کہے شووستا کنیے او امام دے

أَوْلِيَاكَ وَ خَاتَمَ أَنْبِيَاكَ وَ حَبِيبِ

د دوستانو ستا او ختمونکے دے د پیغمبرانو ستا او محبوب

رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ شَهِيدِ الْمُرْسَلِينَ وَ شَفِيعِ

د رب العالمین دے او گواہ درسلانو دے او شفاعت کونکے

الْمُذْنِبِينَ وَ سَيِّدِ وُلْدِ أَدَمَ أَجْمَعِينَ

د گنہگارو دے او سردار دے د آدم دتول اولاد

الْمَرْفُوعِ الذِّكْرِ فِي الْمَلِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

جہ او چت کہے شوے دے ذکر دھغویٰ بہ ملائکو مقربو کنیے

الْبَشِيرِ النَّذِيرِ السَّرَاحِ الْمُنِيرِ الصَّادِقِ

جہ زیرے ور کونکے دے 'برونکے دے دیوہ دہ رویشانہ ریشتنے دے

الْأَمِينِ الْحَقِّ الْمُبِينِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

امانت دار دے حق ظاہرونکے دے دیر مہربان دیر رحم کونکے دے

الْهَادِي إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ الَّذِي

لا رہ بنودونکے دے طرف دنیغے لارے. ہفہ ہستی جہ

أَنْبِيَتَهُ سَبْعًا مِنْ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ

تاورلہ ورکری دی اوہ آیتونہ د سورت فاتح او قرآن عظیم

نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَ هَادِي الْأُمَّةِ أَوَّلِ مَنْ

نبی درحمت دے او رھنما د اُمت دے اول ہفہ کس دے

تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ

جہ راؤ زیہ دقبرنہ او دا خلیوی بہ جنت تہ

وَالْمُؤَيَّدِ بِسَيِّدِنَا جَبْرِيلَ وَسَيِّدِنَا

اوملدکے شوے دے زمونیر بہ سردار جبریل سرہ اوزمونیر بہ سردار

مِيكَائِيلَ الْمُبَشِّرِ بِهِ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ

میکائیل سرہ زیرے نے ورکے شوے دے بہ تورات او بہ انجیل کنیے

الْمُصْطَفَى الْمُجْتَبَى الْمُنتَخَبِ أَبِي

غورہ کہے شوے غورہ کہے شوے 'منتخب کہے شوے ابو

الْقَاسِمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
القاسم سردار زمونیر محمد خونے د عبد اللہ خونے
بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ ۝ اللَّهُمَّ
د عبد المطلب خونے د ہاشم اے اللہ
صَلِّ عَلَى مَلَائِكَتِكَ وَالْمُقَرَّبِينَ الَّذِينَ
رحمت او لیسے پہ خپلو ملائکو او مقربینو ہفہ خوگ
يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ وَ
چہ تسیح واتی شہ او ورخ سستیانہ کوی او داللہ نافرمانی
لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ
نہ کوی پہ ہفہ حکم کنیے چہ ورتہ نے کرے وی او کوی ہفہ کار
مَا يُؤْمَرُونَ ۝ اللَّهُمَّ وَكَمَا اصْطَفَيْتَهُمْ
چہ دکوم ورتہ حکم شوے وی اے اللہ او خنکہ چہ دھوئی منتخب کری
سَفَرَاءَ إِلَى رُسُلِكَ وَأَمْنَاءَ عَلَى وَحْيِكَ
دی پیغام رسونکی خپلو رسولا نو طرفتہ او امانتدار پہ وحی خپلے

وَشَهِدَاءَ عَلَى خَلْقِكَ وَخَرَقْتَ لَهُمْ
او گواہان پہ مخلوق خپل او خیرے کرے ددی ہوئی دپارہ
كُنْفَ مَجِيئِكَ وَأَطَلَعْتَهُمْ عَلَى مَكْنُونِ
کنارے دپہر دو خپلو او خیر کرے ددی پہ پت
غَيْبِكَ وَاخْتَرْتَ مِنْهُمْ خَزَنَةَ لِحْدَتِكَ
غیب خپل او اختیار کری ددی پہ ہوئی کنیے خیال ساتونکی دجنت خپل
وَحَمَلَةَ لِعَرْشِكَ وَجَعَلْتَهُمْ مِنْ
او او چترنکی دعرش خپل او گرخولی ددی د
أَكْثَرِ جُنُودِكَ وَقَضَيْتَهُمْ عَلَى الْوَرَى
اکثر ولینکرو خپلوانہ او فضیلت دورلہ ور کرے دے پہ مخلوق باندے
وَأَسَكَنْتَهُمُ السَّمَوَاتِ الْعُلَى وَزَيَّيْتَهُمْ
او استوگنہ دور کرے دہ پہ او چتواسامانونو کنیے او پاک کری ددی
عَنِ الْمَعَاصِي وَالذَّنَائِبِ وَقَدَّسْتَهُمْ
دگناہونونہ او د بدوعا دتونونہ او پاک کری ددی

عَنِ التَّقَائِصِ وَالْأَقَاتِ فَصَلِّ عَلَيْهِمْ

دنقانصونه او دآفتونونه. پس درود اوليرے په هغوی باندے

صَلَاةً دَائِمَةً تَزِيدُهُمْ بِهَا فَضْلًا

داسے درودچه همیشه وي چه زیات کرے په هغه سره بزکمي دهغوی

وَتَجْعَلْنَا لِاسْتِغْفَارِهِمْ بِهَا أَهْلًا

او او گورخوے مونیر دهغوی استغفار کولو د پاره په هغه سره اهل

اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى جَمِيعِ أَنْبِيَائِكَ وَ

ای الله او درود او لیرے په ټولو انبیاء خپلو او خپلو هغه رسولانو

رُسُلِكَ الَّذِينَ شَرَحَتْ صُدُورَهُمْ

باندے چه پرانستے دي تا سینے دهغوی او ورسره داینبے دے حکمت

وَأودَعَتْهُمْ حِكْمَتَكَ وَطَوَّقَتْهُمْ نُبُوتَكَ

خپل او په غاړه کښے دے ورته اچولے دے نبوت خپل او نازل کړي

وَأَنْزَلْتَ عَلَيْهِمْ كُتُبَكَ وَهَدَيْتَهُمْ

ددې په هغوی باندے کتابونه خپل او هدایت دکړے دے دهغوی په ذریعه

خَلَقَكَ وَدَعَا إِلَى تَوْحِيدِكَ وَشَقُّوْا

مخلوق خپل ته او هغوی رابدل کړي دي ستاتو حید طرفته او شوق نرے

إِلَى وَعْدِكَ وَخَوْفُوا مِنْ وَعِيدِكَ وَ

ورکړے دے ستا وعده ته او برؤل نرے کړي دي ستا د عذاب نه او

أرْشَدُوا إِلَى سَبِيلِكَ وَقَامُوا بِحُجَّتِكَ

رهنماتي نرے کرے ده ستا لارے طرفته او او دریدلي دي ستا په حجت سره

وَدَلَّيْلِكَ وَسَلِّمَ اللَّهُمَّ عَلَيْهِمْ تَسْلِيمًا

اوستا په دلیل سره او سلام او لیرے ای الله په هغوی باندے ډیر سلام

وَهَبْ لَنَا بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

اورا کرے مونیر ته په درود و نیلو سره هغوی باندے لو نرے اجر

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ای الله رحمت او لیرے زموږ په سردار محمد باندے او په

أل سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً

آل د سردار زموږ محمد باندے داسے رحمت چه همیشه وي

مقبولة تؤدني بهاعنا حقه العظيم

او مقبول وي چه اداشي به هغه سره زمونږ نه لونه حق دهغوي

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب

امه الله رحمت اوليې به سردار زمونږ محمد بانده چه صاف ده

الحسن والجمال والبهجة والكمال

دحسن او جمال او دخو شخالو او دکمال

والبهاء والنور والودان والخورو

او د رنرا او دنور او د غلمانو او دخورو او

الغرف والقصور واللسان الشكور

د بالاخانو او دمحلونو او د ژبې شکر کندانې

والقلب المشكور والعلم المشهور

او د زړه شکر کونکي او د علم مشهور

والجيش المنصور والبنين والبنات

او دلښکر فتحمنده او صاحب دخامنو او دلونږو

والازواج الطاهرات والعلو على الراجا

اودببسانو پاکيزه و او صاحب داوجوالي به درجو بانده

والزمنم والمقام والمشعر الحرام

او صاحب د زمزم او دمقام محمود او دمشعره حرام

واجتناب الاثم وتزبيبة الايتام والحج

اودپرهيز کونکي دگناهونونه اوتربيت کونکي ديتيمانو او صاحب د حج

وتلاوة القران وتسييح الرحمن وصيام

او د تلاوت قرآن او د تسيح د رحمن او دروزو

رمضان واللواء المعقود والكرم

د رمضان او د جهنمې غوټه لرونکې او دکرم

والجود والوفاء بالعهد وصاحب الرعية

او د سخا او د وفا په لوظونو بانده صاحب د رغبت

والترغيب البغلة والخبيب والحوض

اودترغيب او صاحب د بغله (قجرې) او شريف او صاحب د حوض

وَالْقَضِيْبُ لِلنَّبِيِّ الْاَوَّابِ لِطَاوِقِ التَّوَابِ

او ذنورے اللہ تہ رجوع کونکے نبی و یونکے سرہ دحق و بنا

الْمَنْعُوتِ فِي كِتَابِ لِنَبِيِّ عَبْدِ اللَّهِ النَّبِيِّ

تعریف کرے شوے پہ کتاب کینے نبی د اللہ بندہ نبی

كَتَبَ اللَّهُ النَّبِيَّ حُجَّةَ اللَّهِ النَّبِيِّ مَنْ

د اللہ خزانہ نبی د اللہ حجت دا سے نبی چہ خوک نے اطاعت

أَطَاعَهُ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَاهُ

او کرے نوبقینا هغه د اللہ اطاعت او کر و او چاچہ دهغه نافرمانی او کره

فَقَدْ عَصَى اللَّهَ الْعَرَبِيُّ الْقُرَشِيُّ

نوبقینا هغه دا اللہ نافرمانی او کره نبی عربی دے قریشی دے

الزَّمَزَمِيُّ الْمَكِّيُّ التَّهَامِيُّ صَاحِبِ

زمزمی دے مکی دے تهامی دے خاوند

الْوَجْهِ الْجَوَيْبِ وَالطَّرْفِ الْكَجِيلِ

د حائستہ مخ دے او صاحب ذ رانجو دارو سترگو دے

وَالْحَدِّ الْأَسِيلِ وَالْكَوْثَرِ وَالسَّلْسِيلِ

او داننگی هوار او د کونثر او د سلسیل دے

قَاهِرِ الْمُضَادِّينَ مُبِيدِ الْكُفْرَيْنِ وَ

غالب پہ مخالفینو هلاکونکے دکافرانو او

قَاتِلِ الْمُشْرِكِينَ قَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ

قاتل د مشرکانو قائد د خلیدونکو لاسونو خجو

إِلَى جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَجَوَارِ الْكَرِيمِ

د جنت نعمتونو طرفتہ او پناہ د کریم

صَاحِبِ سَيِّدِ نَاجِرِ بَيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

دوست د سردار زمونیر جبرئیل علیہ السلام

وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَشَفِيعِ الْمُذْنِبِينَ

او رسول د رب العالمین او شفاعت کونکے د گنہگارانو

وَعَايَةِ الْغَمَامِ ○ وَوَصْبَاحِ الظَّلَامِ

او غایت د رحمت دوریخو او دیوه ده ذتیارو

وَقَمَرِ التَّمَامِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ

اوسپوری ذہ خوار لسمے شے رحمت دالہ دوی یہ ہغوی بانہے او بہ آل دھغوی

المُصْطَفِينَ مِنْ أَطْهَرِ جِبَلَةٍ صَلَوَةٌ

شوگ چہ غورہ کرے شوی دی بہ پاک ترینہ دلہ کنہے داسے رحمت چہ

دَائِمَةً عَلَى الْأَبَدِ غَيْرِ مُضْمَلَةٍ صَلَّى

ہمیشہ وی بہ ہمیشہ والی بانہے نہ وی قطع کیونکہ رحمت دالہ دوی بہ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ صَلَوَةٌ يَتَجَدَّدُ

ہغوی بانہے او بہ آل دھغوی داسے رحمت چہ تازہ کیہی بہ ہغے سرہ خوشالی

بِهَا حُبُّهُ وَيُشْرَفُ بِهَا فِي الْمَبْعَادِ

دھغوی او اوچت کرے شی بہ ہغے سرہ بہ قیامت کنہے راتل دھغوی او تشریف

بِعَثَّةٍ وَنُشُورُهُ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ

راؤزل دھغوی بہ حشر کنہے بس رحمت دالہ دوی بہ ہغوی بانہے او بہ آل دھغوی

آلِهِ الْأَجْمَعِ الطَّوَالِحِ صَلَوَةٌ تَجُودُ عَلَيْهِمْ

شوگ چہ خلیلونکی سوری دی داسے رحمت چہ او وریری بہ ہغوی بانہے

أَجُودَ الْغِيُوثِ الْهُوَامِعِ أَرْسَلَهُ مِنْ أَرْحِ

بہ ہنہ وریلونکو بارانوں سرہ لیکلے نے دے ہغوی کرہ دافضل ترینو عربونہ بہ

الْعَرَبِ مِيزَانًا وَأَوْصَحَهَا بَيَانًا وَ

میزان کنہے او بہ زیات واضح بیان کونکہ کنہے او بہ زیات فصاحت والو کنہے

أَفْصَحَهَا لِسَانًا وَأَشْمَخَهَا إِيْمَانًا وَأَعْلَمَهَا

بہ ژبہ کنہے اوزیات اوچت دھغوی نہ بہ ایمان کنہے او زیات اوچت بہ ہغوی

مَقَامًا وَأَحْلَاهَا كَلَامًا وَأَوْفَاهَا ذِمَامًا

کنہے بہ مقام کنہے اوزیات خوردہ ہغوی کنہے بہ کلام کنہے اوزیات کامل بہ

وَأَصْفَهَا رَغَامًا ۞ فَأَوْصَحَ الطَّرِيقَةَ

ہغوی کنہے بہ بزرگی کنہے او زیات خالص بہ ہغوی کنہے بہ نسب

وَنَصَحَ الْخَلِيقَةَ وَشَهَّرَ الْإِسْلَامَ وَكَسَّرَ

کنہے ہس واضح نے کرلہ لارہ اونصیحت نے او کر و خلقوتہ او مشہور نے

الْأَصْنَامَ وَأَظْهَرَ الْحُكْمَ وَحَظَرَ الْحَرَامَ

کر و اسلام اومات کرل بتان او ظاہر نے کرل احکام او بندو لے نے او کر و دحر امو نہ

كَرَّو دَحْرًا مَوْهًا

وَعَمْرٍ بِالْإِنْعَامِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى

او عام شولوپه نعمتونوسره. رحمت دالله دوي په هغوی باندې او په

إِلَيْهِ فِي كُلِّ مَحْفَلٍ وَمَقَامٍ أَفْضَلِ

آل دهغوی په هر محفل کېنې او مقام کېنې غوره

الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى

درود او سلام. رحمت دالله دوي په هغوی باندې او په آل دهغوی

إِلَيْهِ عَوْدًا أَوْ بَدَأً ○ صَلَاةً تَكُونُ

په دې حال کېنې چه بیا بیا ئې تکررې او نوې کېږي. داسې رحمت چه شي

ذَخِيرَةً وَوَرْدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى

ذخیره او ورد. رحمت دالله دوي په هغوی باندې او په

إِلَيْهِ صَلَاةً تَأْتِي زَاكِيَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

آل دهغوی داسې رحمت چه پوره پاک وي او رحمت دالله دوي په هغوی

وَعَلَى إِلَيْهِ صَلَاةٌ يَتَّبِعُهَا رُوحٌ وَرِيحَانٌ

باندې او په آل دهغوی داسې رحمت چه ورپسې وي روح او ريحان

وَبَعْقِبِهَا مَغْفِرَةٌ وَرِضْوَانٌ ○ وَصَلَّى اللَّهُ

او ورپسې وي مغفرت او رضوان. او رحمت دالله دوي

عَلَى أَفْضَلِ مَنْ طَابَ مِنْهُ التَّجَارُؤُ

په هغوی غوره هستی چه پاک شوورسره نسب او

سَمَائِهِ الْفَخَارُ وَاسْتَنَارَتْ بِنُورِ جَبِينِهِ

او چت شوورسره غوره خویونه او او خلیدې په نور دتندی دهغوی سره

الْأَقْمَارُ ○ وَتَضَاءَتْ لَكَ عِنْدَ جُودِ عَيْبِهِ

سپوړمې. او کم حیثيته شوی دهغوی د نبي لاس دسخا په وړاندې

الْغَمَامِمْ وَالْبِحَارُ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

ورینخې او دریا بونه. سردار زمونږ او نبي زمونږ

مُحَمَّدٍ الَّذِي بَاهَرِ آيَاتِهِ أَضَاءَتْ

محمد باندې دچابه غالبو آیتونو سره چه روښانه شولې

الْأَنْجَادُ وَالْأَعْوَارُ وَيُعْجَزَاتِ آيَاتِهِ

او چتې زمکې او کنډې او دهغوی دآیتونو معجز و سره

نَطَقَ الْكِتَابُ وَتَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ

کویانہ شولو کتاب او پرلہ ہسے راغلل خبرونہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

رحمت دالله دوی پہ ہغوی بانلہ او پہ آل دہغوی او پہ اصحابو دہغوی

الَّذِينَ هَاجَرُوا لِلنُّصْرَةِ وَنَصَرُوهُ

چاچہ ہجرت کرے دے دہغوی مرستے د پارہ او ملکر تیانے او کرہ

فِي هَجْرَتِهِ فَنِعْمَ الْمُهَاجِرُونَ وَنِعْمَ

پہ ہجرت دہغوی کنسے نو ڈیر بنہ مہاجرین وو او ڈیر بنہ

الْأَنْصَارُ صَلَاةٌ تَامِيَةٌ دَائِمَةٌ مَا

انصار وو داسے رحمت چہ زیاتیلونکے وی ہمیشہ وی ترخو پورے چہ

سَجَعَتْ فِي أَيِّهَا الْأَطْيَارُ وَهَمَّعَتْ

چغفار کوی پہ خانکو کنسے مارغان او ترخو پورے چہ وریکی

يُوبِلُهَا الدِّيْمَةُ الْمِدْرَارُ ضَاعَفَ اللَّهُ

پہ خپل زور سرہ باران ڈیر وریدونکے دو چند دکری الله

عَلَيْهِ دَائِمَ صَلَوَاتِهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ

پہ ہغوی بانلہ ہمیشہ رحمت خپل اے الله رحمت اولیرے

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ

زمونیر پہ سردار محمد بانلہ او دہغوی پہ آل بانلہ چہ پاک دی

الْكَرَامِ صَلَاةٌ مَوْصُولَةٌ دَائِمَةٌ

او عزتمند دی داسے رحمت چہ پیوست وی ہمیشہ

الَّتِي تَصَالِي يَدَ وَامْرِئِي جَلَالِ الْكَرَامِ

او خانے شوم وی پہ ہمیشہ والی د خاوند د جلال او داکرام

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي

اے الله رحمت او لیبرے پہ سردار زمونیر محمد بانلہ خوک چہ

هُوَ قُطْبُ الْجَلَالَةِ وَشَمْسُ لُبُّوَّةِ

مدار د بزرگی دے او نمر د نبوت

وَالرِّسَالَةِ وَالْهَادِي مِنَ الصَّلَاةِ

او درسالت دے اولارہ بنو دونکے دے دکمراہی نہ

وَالْمُنْقِذُ مِنَ الْجَهَالَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

او خلاصونکے دے د جہالت نہ، رحمت داللہ دوی پہ ہغوی باندے

وَسَلَّمَ صَلَوةً دَائِمَةً اِلْتِصَافِ التَّوَالِي

او سلام، داسے رحمت چہ ہمیشہ پیوست وی او متواتر وی

مُتَعَاقِبَةً يَتَعَاقِبُ اِلْيَامٍ وَاللَّيَالِي

یوبل پسے وی پہ شان د تلوراتلو د ورخو او د شہو

اَلْحِزْبُ الثَّامِنُ فِي يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ

اتم حزب د پیر د ورخے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ

اے اللہ رحمت او لیجے زمونیر پہ سردار محمد باندے چہ نبی دے

الزَّاهِدِ رَسُوْلٍ لِمَلِكِ الصَّمَدِ الْوَاحِدِ

زاهد دے، رسول دے، بادشاہ دے، بے نیازہ دے واحد دے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَوةً دَائِمَةً

رحمت د اللہ دوی پہ ہغوی باندے داسے رحمت پہ ہمیشہ وی

اِلَى مُنْتَهَى الْاَبَدِ بِلَا اِنْقِطَاعٍ وَلَا

انتہا زمانے پورے چہ منقطع نہ شی او نہ فناشی داسے

نَفَادٍ صَلَوةً تُنْجِنَا بِهَا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ

رحمت چہ نجات راکیرے مونیر تہ پہ ہغہ سرہ ذکر می ددوزخ نہ

وَيُسِّرُ الْيَهَادُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى

او دوزخ دیترہ بدہ تکانہ دہ، اے اللہ رحمت او لیجے پہ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى
سردار زمونیر محمد بانڈے چہ نبی دے امی دے او بہ
إِلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ لَا يُحْصَى لَهَا عَدَدٌ
آل دھغوی اوسلام ہم داسے درود چہ نہ نے احاطہ او کرے شی یو عدد
وَلَا يُعَدُّ لَهَا مَدَدٌ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
اونہ نے او شمارے شی شوک مدد. ای اللہ رحمت او لیجے بہ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةٌ تُكْرَمُ بِهَا مَنَوَاهُ
سردار زمونیر محمد بانڈے داسے رحمت چہ عزتمندہ کرے بہ ہغے سرہ
وَتُبَلِّغُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الشَّفَاعَةِ
آرامگاہ دھغوی او اور سوے بہ ہغے سرہ قیامت بہ ورخ دشفاغت نہ
رِضَاهُ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا
رضا دھغوی. ای اللہ رحمت او لیجے بہ سردار زمونیر
مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَصْبَلِ السَّيِّدِ
محمد بانڈے چہ نبی دے اصیل دے سردار دے

النَّبِيِّ الَّذِي جَاءَ بِالْوَحْيِ وَالنَّزِيلِ
بزرگ دے ہغے ذات چہ راغلے دے بہ وحی او قرآن سرہ
وَأَوْضَحَ بَيَانَ التَّأْوِيلِ جَاءَهُ الْأَمِينُ
او واضحہ نے بیان کرو تفسیر دھغے او راغلے دے ورلہ امانتدار
سَيِّدِنَا جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْكَرَامَةِ
سردار زمونیر جبریل علیہ السلام بہ عزتمندی سرہ
وَالْتَفْضِيلِ وَأَسْرَى بِهِ الْمَلِكُ الْجَلِيلُ
او بہ فضیلت سرہ او سیل وربانڈے او کرو بادشاہ او چت
فِي اللَّيْلِ لِيَهَيِّمَ الطَّوِيلُ فَكَشَفَ لَهُ
بہ تورے شیے او گندے کنے پس کولاز نے کرے ہغوی دہارہ
عَنْ أَعْلَى الْمَلَكَوْتِ وَأَسْرَاهُ سَنَاءُ
پردے د عالم غیب نہ او وے بنوولہ ورتہ بلندی
الْجَبْرُوتِ وَنَظَرَ إِلَى قَدْرَةِ الْحَيِّ الدَّائِمِ
دجبروت او نظر نے او کرو قدرت دھمیشہ ژوندی دائمی خدانے تہ

الْبَاقِي الَّذِي لَا يَمُوتُ ○ صَلَّى اللهُ

چه باقی دمی او نه مری. رحمت دالله دوی

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ مَّقْرُونَةٌ بِالْجَمَالِ

په هغوی باندی او سلام هم داسی رحمت چه پیوست وی په جمال سره

وَالْحُسْنِ وَالْكَمَالِ الْخَيْرِ وَالْإِفْضَالِ

او خسن سره او کمال سره او خیر او بزرگی سره

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

ای الله رحمت او لیجی په سردار زمونیر محمد باندی او په آل

أَبِي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْأَقْطَارِ ○

د سردار زمونیر محمد باندی په شمار دشاخکو

وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَسْبَابِنَا

او رحمت او لیجی په سردار زمونیر او په آل د سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ عَدَدَ وَرَقِ الْأَشْجَارِ ○ وَصَلِّ

محمد باندی په شمار دپانرو د اونو او رحمت او لیجی

عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا

په سردار زمونیر محمد باندی او په آل د سردار زمونیر.

مُحَمَّدٍ عَدَدَ زَبَدِ الْبِحَارِ ○ وَصَلِّ عَلَى

محمد باندی په شمار دڅک د دریابونو او رحمت او لیجی

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

په سردار زمونیر محمد باندی او په آل د سردار زمونیر محمد باندی

عَدَدَ الْأَنْهَارِ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

په شمار د نهرونو او رحمت او لیجی په سردار زمونیر محمد باندی

وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ رَمْلِ

او په آل د سردار زمونیر محمد باندی په شمار د شکو

الصَّحَارَى وَالْقَفَارِ ○ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

د صحراگانو او میدانونو او رحمت او لیجی په سردار زمونیر

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

محمد باندی او په آل د سردار زمونیر محمد باندی په شمار

ثَقِيلٌ يُجْبَالُ وَالْأَحْجَارِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا

ذ دروندوالي د غرونو او کانو. او رحمت او ليرے په سردار زمونږ

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

محمد باندے او په آل د سردار زمونږ محمد باندے په شمار

أَهْلِ لُجَنَّةٍ وَأَهْلِ النَّارِ وَصَلِّ عَلَى

د جنتيانو او دوزخيانو. او رحمت او ليرے

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ

په سردار زمونږ محمد باندے او په آل د سردار زمونږ محمد باندے په شمار

الْأَبْرَارِ وَالْفَجَّارِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

د نيکانو او بدانو، او رحمت او ليرے په سردار زمونږ محمد باندے او په آل

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ الْبَيْلُ

د سردار زمونږ محمد باندے په شمار دهغه چه مختلف شويدي په هغه سره

وَالنَّهَارُ وَاجْعَلْ لِلَّهِمَّ صَلَاتَنَا عَلَيْهِ

شپے او ورځے، او او مگر خوے اے الله درود زمونږه په هغوی باندے

حِجَابًا مِّنْ عَذَابِ النَّارِ سَبَبًا لِإِبَاحَةِ

حجاب داور د عذاب نه او سبب د مباح والي

دَارِ الْقَرَارِ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ

د جنت بيشکه ته په هر چا غالب او ډير بخښونکے نے.

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

او رحمت دالله ډوي زمونږ په سردار محمد باندے او په

آلِ الطَّيِّبِينَ وَذُرِّيَّتِهِ الْمُبَارَكِينَ

آل د هغوی چه پاکان دي او په اولاد دهغوی چه برکتیان دي

وَصَحَابَتِهِ الْكُرَمِيِّينَ وَأَزْوَاجَهُ أَهْمًا


او په اصحابو دهغوي چه عزتمند دي او په بيبيانو دهغوی چه ميندے

الْمُؤْمِنِينَ صَلَوةً مَّوْصُولَةً تَتَرَدَّدُ

د مومنانو دي، داسے رحمت چه يوځانے شوے او پرله پسے وي

إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

د قيامت ترورځ پورے، اے الله رحمت او ليرے په



سَيِّدِ الْأَبْرَارِ وَزَيْنِ الْمُرْسَلِينَ الْأَخْيَارِ

سردار ذنیکانو او په زینت ذ مرسلانو غوره کره شو

وَ أَكْرَمَ مَنْ أَظْلَمَ عَلَيْهِ الْبَيْلُ وَأَشْرَقَ

اوزیات عزتمنددهغه چانه چه تباره کره وی ورباندے شی او خلیدے

عَلَيْهِ النَّهَارُ ۞ ثَلَاثًا ۞ أَللَّهُمَّ يَا ذَا

وی ورباندے ورخے (درے خل داوانی) اے الله اے خاوندے

الْمَنِّ الَّذِي لَا يُكَافِي امْتِنَانَهُ وَالطَّوْلِ

داحسان هغه ذاته چه بدله نشی کیلے داحسان ستاوداسے ورکھے والا

الَّذِي لَا يُجَازِي إِعْنَامَهُ وَاحْسَانَهُ سَأَلْتُكَ

چه عوض نشی کیلے د انعام ستا او داحسان ستا' مونیر سوال کوز

بِكَ وَلَا تَسْأَلُكَ بِأَحَدٍ غَيْرِكَ أَنْ تُطْفِقَ

تانه او سوال نه کوؤ دهیچانه تانه سوا چه گویانه کره

الْإِسْنَتَ عِنْدَ السُّؤَالِ وَتَوْفِقْنَا لِصَلَاةِ

ژیے زمونیره په وخت د سوال دمنکر نکیر' او توفیق راله را کره دنیکو

الْأَعْمَالِ وَتَجَعَلْنَا مِنَ الْأَمِينِ يَوْمَ

عملونو او او کرخوے مونیره دامن والاونه په ورخ

الرَّجْفِ وَالزَّلْزَلِ يَا ذَا الْعِزَّةِ وَالْجَلَالِ

دزمکے لرزیدلو او د زلزلو' اے د عزت او لوی خاوندے

أَسْأَلُكَ يَا نُورَ التَّوْقِيلِ لَا زَمَانَ وَاللَّهُوِيَّ

زه سوال کوم لتانه اے نوره د نورونو مخکنے د زمانو او مودو'

أَنْتَ الْبَاقِي بِلَا زَوَالٍ الْغَنِيِّ بِلَا مِثَالٍ

ته باقی نے بغیر زواله عنی نے بے مشاله

الْقُدُّوسِ الطَّاهِرِ الْعَلِيِّ الْقَاهِرِ الَّذِي

دیر پاک' طاهر نے' او جت نے داسے غالب نے

لَا يُحِيطُ بِهِ مَكَانٌ وَلَا يَسْتَقِيلُ عَلَيْهِ زَمَانٌ

چه احاطه برے نشی کولے هیخ مکان او نه شاملیری ورباندے زمانه

أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى كُفَاهَا وَيَعْظُمُ

زه سوال کوم لتانه په وسیله دتولو بنکلونو مونو ستا او په او چتو

أَسْمَائِكَ إِلَيْكَ وَأَشْرَفَهَا عِنْدَكَ مَنْزِلَةً

نومونوستا، ستا طرفتہ، او زیات شرافت والا ستا بہ نزد بہ مرتبہ کنیے

وَأَجْزَلَهَا عِنْدَكَ تَوَابًا وَأَسْرَعَهَا مِنْكَ

او زیات او جت ستا بہ نزد بہ ثواب کنیے او زیات تیز ستا د طرفہ

إِجَابَةً وَبِاسْمِكَ الْمَخْزُونِ الْمَكْنُونِ

بہ قبولوالی کنیے، او بہ وسیلہ دنوم ستا چہ خزانہ شومے او پتہ دے

الْجَلِيلِ الرَّجُلِ الْكَبِيرِ الْكَبِيرِ الْعَظِيمِ

جلیل القدر او دتولونہ او جت دے ذلویونہ لونی دے عظیم

الْأَعْظَمِ الَّذِي تُجِبُّهُ وَتَرْضَى عَنْ مَنْ

او اعظم دے کوم چہ ستا خوبش دے او راضی کیے دھغہ چانہ چہ تا

دَعَاكَ بِهِ وَتَسْتَجِيبُ لَهُ دُعَاءَهُ ۝

راہلی پہ دے سرہ او قبولے تہ ہغہ دبارہ دعا دھغہ زہ سوال کوم تانہ

أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِلا إِلَهَ إِلا أَنْتَ الْحَنَّانُ

اے اللہ پہ دے سرہ چہ نیشتہ خوگ معبود تانہ سوا، تہ دیر مہربان نے

الْمَتَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ذُو الْجَلَالِ

دیر احسان کونکر نے تومے پیدا کونکر داسمانونو اوزمکے نے خاوند جلال

وَالْإِكْرَامِ عَلِيمُ الْغَيْبِ الشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ

او دعزت نے، خبردار نے بہ عیبو او بنکارہ باندرے لونی

الْمُتَعَالِ ۝ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ

او او جت نے، او سوال کوم تانہ بہ وسیلہ دنوم ستا سرہ چہ عظیم

الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ

او اعظم دے ہغہ نوم چہ تہ راوبللے شے بہ ہغے سرہ نو قبول کومے

وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ وَأَسْأَلُكَ

او کللہ چہ سوال او کرے شی تانہ بہ ہغے سرہ نوور کرہ کومے، او سوال

بِاسْمِكَ الَّذِي يَدُلُّ لِعَظَمَتِهِ الْعُظَمَاءُ

کوم تانہ ستا بہ ہغہ نوم سرہ چہ سرتبتیوی بہ ورائدے د عظمت دھغے لونی

وَالْمُلُوكُ وَالسَّبَائِعُ وَالْهُوَامُ وَكُلُّ

لونی خلق او بادشاہان او درندگان او دزمکے کورخندہ غیزونہ او تبول

شَيْءٌ خَلَقْتَهُ يَا اللَّهُ يَا رَبِّ اسْتَجِبْ دَعْوَتِي يَا

خیزو نہ چہ تا پید ا کری دی، اے اللہ، اے ربہ قبولہ کرے دعاخما اے

مَنْ لَّهُ الْعِزَّةُ وَالْجَبْرُوتُ يَا ذَا الْمُلْكِ

ہفہ ذاتہ چہ ہفہ دہارہ عزت او جبروت دے اے دملک

وَالْمَلَكُوتِ يَا مَنْ هُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ

او حکومت خاوندہ اے ہفہ ذاتہ چہ ژوندے دے نہ بہ مری

سُبْحَانَكَ رَبِّ مَا أَعْظَمَ شَانُكَ وَأَرْفَعُ

ہ پاک نے تہ اے ربہ غہ لوئے دے شان ستا او اوچت دے

مَكَانَكَ أَنْتَ رَبِّي يَا مُتَقَدِّسًا فِي جَبْرُوتِهِ

مکان ستا، تہ خما رب نے، اے پاکہ پہ صفاتو خپلو کنبے

إِلَيْكَ أَرْغَبُ وَإِلَيْكَ أَرْهَبُ يَا عَظِيمُ

ستا طرفتہ رغبت کوم او ہم تانہ یرہ کوم اے عظیمہ

يَا كَبِيرُ يَا جَبَّارُ يَا قَادِرُ يَا قَوِيُّ تَبَارَكَتَ

اے لویہ اے زور آورہ او قادرہ اے طاقتورہ، تہ برکت والا نے

يَا عَظِيمُ تَعَالَيْتَ يَا عَلِيمُ سُبْحَانَكَ يَا

اے عظیمہ، تہ لوئے نے، اے دلونے علم خاوندہ، تہ پاک نے، اے

عَظِيمُ سُبْحَانَكَ يَا جَلِيلُ أَسْأَلُكَ

عظمت والا تہ پاک نے، اے لوئے ذاتہ سوال کوم تانہ

بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ التَّامِّ الْكَبِيرِ أَنْ لَا

ستاپہ عظیم نوم سرہ، کامل او لوئے، ذاتہ، داچہ مہ

تُسَلِّطَ عَلَيْنَا جَبَّارًا عَنِيدًا أَوْ لَا شَيْطَانًا

مسلط کومے پہ مونہ بانڈے شوک سرکش جھکے مارا و نہ شیطان

مَرِيدًا أَوْ لَا إِنْسَانًا حَسُودًا أَوْ لَا ضَعِيفًا

سرکش او نہ انسان بدخواہ او نہ شوک کمزورے

مَنْ خَلَقَكَ وَلَا شَدِيدًا أَوْ لَا بَاسًّا أَوْ

دمخلوق خپل نہ او نہ شوک سخت او نہ نیک او

لَا فَاجِرًا أَوْ لَا عَنِيدًا أَوْ لَا عَنِيدًا ○

نہ فاجر او نہ غلام او نہ عناد کونکے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ

اے اللہ زہ سوال کوم تانہ پس بیشکہ زہ گواہی کوم چہ

أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْوَاحِدُ

بہ تحقیق سرہ تہ اللہ نے چہ نیستہ دے معبود مکرہم تہ نے خانلہ

الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

یولے ہے حاجتہ ہفہ ذات چہ نہ نے شوک زیکولی دی اونہ چانہ زیکیلے دے

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ يَا هُوَ يَا مَنْ لَا

اونہ دہفہ دہارہ شوک سیال شتہ. اے ہفہ ذاتہ چہ نیستہ دے شوک بل

هُوَ إِلَّا هُوَ يَا مَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يَا زَلِي

مکرہم ہفہ دے. اے ہفہ ذاتہ چاتانہ سواہی شوک معبود نیستہ. اے ازلی

يَا أَبَدِي يَا فَائِمَةً يَا دَائِمَةً يَا مَنْ

اے ابدی یا قائمہ اے دائمہ اے ہفہ ذاتہ چہ

هُوَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ يَا الْهَنَاءَ

مملدے ژوندے دے مرگ بہ ورلہ نہ راخی. اے زمونیر معبودہ او

إِلَهَ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا وَاحِدًا إِلَّا إِلَهَ

دہرخیز معبودہ' یو معبودہ نیستہ بل معبود سوا

إِلَّا أَنْتَ ۝ أَللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ

ذ ستانہ . اے اللہ پیدا کونکیہ ذ اسمانونو

وَالْأَرْضِ عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنَ

او ذ زمکے پوہیدونکیہ بہ غیبو او بہ بشکارہ و دیر رحم کونکیہ

الرَّحِيمَ الْحَمْدُ الْقَيُّومَ الدِّيانَ الْحَمْدَانَ

دیر مہربانہ' اے ژوندیہ قائمہ. بدلہ ور کونکیہ دیر مہربان

الْمَنَّانَ الْبَاعِثَ الْوَارِثَ ذَا الْجَلَالِ


دیر احسان کونکے مری ژوندی کونکے وارث دجلال او

وَالْإِكْرَامِ ۝ قُلُوبُ الْخَلَائِقِ بِبَيْدِكَ

دلونے خاوند. زرونہ ذ مخلوقاتو ستا پہ لاس کنے دی

تَوَاصِيهِمْ إِلَيْكَ فَأَنْتَ تَزْرَعُ الْخَيْرَ

تندی نے ستا طرفتہ دی پس تہ کہے نیکی



فِي قُلُوبِهِمْ وَتَمَحُّوا الشَّرَّ إِذَا شِئْتَ

دھغوی پہ زبونو کنیے او لرے کوے بدی کلہ چہ او غوارے

مِنْهُمْ ۝ فَاسْأَلْكَ اللَّهُمَّ أَنْ تَمَحُّوا

ددوی نہ، نو سوال کوم لسانہ اے اللہ چہ محوہ کرے

مِنْ قَلْبِي كُلِّ شَيْءٍ تَكْرَهُهُ وَأَنْ تَحْشُو

خما دذره نہ ہر ہغہ خیز چہ تہ نے بد گنہے او داچہ دک کرے

قَلْبِي مِنْ خَشْيَتِكَ وَمَعْرِفَتِكَ وَ

زہ خما دخیلے ویرے نہ او خیل معرفت نہ او

رَهْبَتِكَ وَالرَّغْبَةَ فِيمَا عِنْدَكَ وَالْأَمْنَ

اودخیل خوف نہ، اورغب رانصب کرے دھغہ خیزونوچہ تاسرہ دی

وَالْعَافِيَةَ وَأَعْطِفْ عَلَيْنَا بِالرَّحْمَةِ

اوامن او عافیت ہم، او مہربانی او کرے پہ مونیر بانلدے پہ رحمت سرہ

وَالْبَرَكَاتِ مِنْكَ وَالْهِمْنَا الصَّوَابَ

اوپہ برکت سرہ دخیل طرفہ اوزرہ کنیے راتہ واجمے صواب

وَالْحِكْمَةَ ۝ فَتَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ عِلْمَ

او حکمت پس غوارو لسانہ اے اللہ علم

الْحَافِيَيْنِ وَإِنَابَةَ الْمُخْبِتِينَ وَإِخْلَاصَ

ذویریدونکو او متوجہ کیدل دعا جزی کونکو او اخلاص

الْمُوقِنِينَ وَشُكْرَ الصَّابِرِينَ وَتُوبَةَ

دیقین کونکو او شکر د صبر کونکو او توبہ

الصَّادِقِينَ ۝ وَتَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِرُؤُوسِ

دصدیقانو، او سوال کوو لسانہ اے اللہ پہ وسیلے دنور

وَجْهِكَ الَّذِي مَلَأَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ

دذات ستا کوم چہ دکے کرے دی گوشے دعرش ستا

أَنْ تَزْرَعَ فِي قَلْبِي مَعْرِفَتَكَ حَتَّى

چہ او کرے خما پہ زہ کنیے خیل معرفت تردے پورے

أَعْرِفَكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ كَمَا يَتَّبِعُ أَنْ

چہ او پیژنم تالرہ پہ حق پیژندلو سرہ خنکہ چہ بنائیری

أَنْ تُعْرِفَ بِهِ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا

چه او پیژندے ہے ته په هغه سره. او رحمت د الله دوي په سردار زمونږ

مُحَمَّدٍ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ وَإِمَامِ الْمُرْسَلِينَ

محمد باندے چه ختمونکے د نبیانودے او امام د مرسلانودے

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا وَأُحَدِّثُ

اوپه آل دهغوی او په اصحابو دهغوی او سلام پرے اولیرے دیر. او ټول

لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ اللَّهُمَّ اغْفِرْ

تعریفونه خاص الله د پاره دي چه رب دعا مونودے. اے الله او بخښے

لِمُؤَلِّفِهِ وَارْحَمَهُ وَاجْعَلْهُ مِنْ

مؤلف ددے کتاب او رحم پرے او کرے او وے مخخوے د

الْمَحْشُورِينَ فِي زُمْرَةِ النَّبِيِّينَ ○ وَ

پاسیدونکو نه په زمره د پیغمبرانو کښے او

الصَّادِقِينَ وَالشَّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ

په صدیقانو او شهیدانو او صالحانو کښے

بِفَضْلِكَ يَا رَحْمَنُ ○ وَاغْفِرِ اللَّهُمَّ لَنَا

په خپله مهرباني سره اے ډیر رحم کونکيه. او او بخښے اے الله مونږه

وَلَوْلَا الدِّينَا وَلَا سِتَارَتُنَا وَلَمْ شَأْنَنَا وَ

او زمونږ مور پلاء او زمونږه استاذان او زمونږه بزرگان او

بِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ

ټول مومنان سړي او مومنانے ښځے او مسلمانان سړي

وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ

او مسلمانانے ښځے کوم چه ژوندي دي په دوی کښے او کوم چه مړه دي

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ ○ وَ

په خپله رحمت سره اے دټولونه زیات رحم کونکيه. او دا

أَنْ تَتُوبَ عَلَيْهِ إِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

چه نظر د رحمت او کرے په ده باندے بیشکه ته ډیر بخښونکے مهربان

اللَّهُمَّ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ○ ثُمَّ

ئے یا الله دا دعا قبوله کرے زمونږاے دټولو مخلوقاتو ربه. بیا د

تَقْرَأْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَرَّةً
او ويلے شي دا کلمات خوارلس خلے

وَهِيَ هَذِهِ ○ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى بَدْرِ التَّمَامِ
او هغه دادی: اے اللہ رحمت او لیرے د خوار لسمے شیے سپوز میء باندے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نُورِ الظَّلامِ ○ اللَّهُمَّ
اے اللہ رحمت او لیرے د تیارو په رنرا باندے... اے اللہ

صَلِّ عَلَى مِفْتَاحِ دَارِ السَّلَامِ ○ اللَّهُمَّ
رحمت او لیرے په کتیجی دتولو خلقو باندے..... بیاد

صَلِّ عَلَى الشَّفِيعِ فِي جَمِيعِ الْأَنَامِ ○ ثُمَّ
رحمت او لیرے په شفیع دتولو خلقو باندے... بیاد

تَقْرَأْ هَذِهِ الرَّبِّيَّاتُ الْمَنَسُوبَةُ لِلْمَوْلَفِ
دا شعرونه او لوستے شي کوم چه منسوب دي مولف د دے کتاب ته

يَا رَحْمَةَ اللَّهِ إِيَّيْ خَائِفٌ وَجِلٌ ○
اے رحمته د اللہ بیشکه زه پریدونکے لرزیدونکے یم

يَا نِعْمَةَ اللَّهِ إِيَّيْ مُفْلِسٌ عَانٌ ○
اے داللہ نعمته بیشکه زه مفلس او عاجزه یم

وَلَيْسَ لِي عَمَلٌ أَلْقَى الْعَلِيمَ بِهِ ○
او نیشته دے ماسره داسے عمل چه ملاؤشم اللہ سره په هغه سره

سِوَى مَحَبَّتِكَ الْعُظْمَى وَإِيمَانِي ○
سوا ستا د عظیم محبت نه او د ایمان خیل نه

فَكُنْ أَمَانِي مِنْ شَرِّ الْحَيَاةِ وَمِنْ ○
پس شه پناه خما د ژوند د شر نه او د

شَرِّ الْمَمَاتِ وَمِنْ إِحْرَاقِ جُثْمَانِي ○
مرگ د شر نه او د سوزیدلو د بدن خمانه

وَكَنْ غِنَايَ الَّذِي مَابَعْدَهُ فُلْسٌ ○
او شه ته غنی والے خما چه هغه نه پس محتاجی نه وی

وَكَنْ فُكَاكِي مِنْ أَغْلَالِ عَصِيَانِي ○
او شه خلاصے خما د طوقونو د گناه خمانه

تَحِيَّةُ الصَّهْدِ الْمَوْلَى وَرَحْمَتُهُ ○

تحفہ دے نیازہ مالک او رحمت دہفہ

مَا عَنَّتِ الْوُرُوقُ فِي أَوْرَاقِ عَصَانَ ○

ترخو پورے چہ آوازونہ کوی گوگو شکتے دنباخونوپہ بانرو باندمے

عَلَيْكَ يَا عُرْوَتِي الْوُثْقَى وَيَأْسَدِي ○

پتا باندمے اے خما لوتے مضبوطے وسیلے او خما سندنہ

الْأَوْفَى وَمَنْ مَدَّحَهُ رُوحِي وَكَيْمَانِي ○

کاملہ او ہفہ کسہ چہ دہفہ تعریف خما تازگی او خما گل دے

ثُمَّ تَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ لِلْمَوْلَى وَ

بیا داو لوستے شی سورۃ فاتحہ د پارہ دمؤلف او

هَذَا اللَّهُ عَائِدٌ يُقْرَأُ عَقِيْبَ خْتَمِ

دا دعا داو لوستے شی روستو دختم

دَلَائِلُ الْخَيْرَاتِ

دلائل الخیرات نہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

شروع کوم پہ نوم دالله سرہ چہ ڈیر بخبتونکے مہربان دے

اللَّهُمَّ اشْرَحْ بِالصَّلَاةِ عَلَيَّهِ صُدُورَنَا ○

اے اللہ پرانزے پہ درود لیکلو سرہ پہ ہفوی باندمے سینے زمونیرہ

وَيَسِّرْ لَهَا أُمُورَنَا ○ وَفَرِّجْ بِهَا هُمُومَنَا ○

اواسان کرے پہ ہفے سرہ کارونہ زمونیرہ اولے کرے پہ ہفے سرہ پریشانی

وَاجْشِفْ بِهَا غُمُومَنَا ○ وَاعْفِرْ لَهَا

زمونیرہ اولے کرے پہ ہفے سرہ غمونہ زمونیرہ او او بخنے پہ ہفے سرہ

ذُنُوبَنَا ○ وَأَقْضِ بِهَا دِيُونَنَا ○ وَأَصْلِحْ

گناہونہ زمونیرہ او ادا کرے پہ ہفے سرہ قرضونہ زمونیرہ او درست کرے

بِهَا أَحْوَالَنَا ○ وَبَلِّغْ بِهَا أَمَالَئَنَا ○ وَ

پہ ہفے سرہ احوال زمونیرہ او اورسوم پہ ہفے سرہ امید ونہ زمونیرہ او

تَقْبَلْ بِهَا تَوْبَتَنَا ○ وَاعْسِلْ بِهَا

قبولہ کرے پہ ہفے سرہ توبہ زمونیرہ او اووینخے پہ ہفے سرہ

دَرُودٌ مُقَدَّسٌ

درود مقدس

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

يَا اَللّٰهُمَّ بِحُرْمَتِ اَقْوَالِ مُحَمَّدٍ وَّ اَفْعَالِ مُحَمَّدٍ

یا الہی! بحرمت اقوال محمد اور افعال محمد

وَّ اَحْوَالِ مُحَمَّدٍ وَّ اصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ

اور احوال محمد اور اصحاب محمد صلی اللہ

عَلَيْهِ وَّ سَلَّمَ يَا اَللّٰهُمَّ بِحُرْمَتِ بَدَنِ مُحَمَّدٍ

علیہ وسلم یا الہی! بحرمت بدن محمد

وَّ بَطْنِ مُحَمَّدٍ وَّ بَرَكَةِ مُحَمَّدٍ وَّ بَيْعَةِ مُحَمَّدٍ وَّ

اور بطن محمد اور برکت محمد اور بیعت محمد اور

بِرَاقِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَّ سَلَّمَ يَا اَللّٰهُمَّ

براق محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی!

بِحُرْمَتِ تَوْلَادِ مُحَمَّدٍ وَّ تَعْبُدِ مُحَمَّدٍ وَّ تَهَجُّلِ

بحرمت تولد محمد اور تعبد محمد اور تہجیل

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَّ سَلَّمَ يَا اَللّٰهُمَّ بِحُرْمَتِ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی! بحرمت

ثَنَاءِ مُحَمَّدٍ وَّ ثَوَابِ مُحَمَّدٍ وَّ ثَنَاتِ مُحَمَّدٍ

ثناء محمد اور ثواب محمد اور ثنات محمد

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَّ سَلَّمَ يَا اَللّٰهُمَّ بِحُرْمَةِ جِوَالِ

صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی! بحرمت جوال

مُحَمَّدٍ وَّ جِبَالِ مُحَمَّدٍ وَّ جِلِّ مُحَمَّدٍ وَّ وَجْهَةِ

محمد اور جبال محمد اور جبل محمد اور وجہ

مُحَمَّدٍ وَّ جَعْدِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَّ سَلَّمَ

محمد اور جعد (کیسو) محمد صلی اللہ علیہ وسلم

يَا اَللّٰهُمَّ بِحُرْمَةِ حَسَنِ مُحَمَّدٍ وَّ حَسَنَاتِ

یا الہی! بحرمت حسن محمد اور حسنات

مُحَمَّدٍ وَّ حُرْمَةِ مُحَمَّدٍ وَّ حَالِ مُحَمَّدٍ وَّ حَلِيَّةِ

محمد اور حرمت محمد اور حال محمد اور حلیت

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَّ سَلَّمَ يَا اَللّٰهُمَّ بِحُرْمَةِ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی! بحرمت

خَلْقَةَ مُحَمَّدٍ وَخَلَقَ مُحَمَّدًا وَخُطِبَةَ مُحَمَّدٍ

خَلَقْتَ مُحَمَّدًا اور خلق محمد اور خطابت محمد

وَخَيْرَاتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي

اور خيرات محمد صلى الله عليه وسلم يا الهى!

بِحُرْمَةِ دِينِ مُحَمَّدٍ وَدِيَانَةِ مُحَمَّدٍ وَدَوْلَةِ

بحرمت دين محمد اور ديانت محمد اور دولت

مُحَمَّدٍ وَدَرَجَاتِ مُحَمَّدٍ وَدَعَاءِ مُحَمَّدٍ صَلَّى

محمد اور درجات محمد اور دعاء محمد صلى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ ذَاتِ مُحَمَّدٍ

الله عليه وسلم يا الهى! بحرمت ذات محمد

وَذِكْرِ مُحَمَّدٍ وَذَوْقِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اور ذكر محمد اور ذوق محمد صلى الله عليه

وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ رُوحِ مُحَمَّدٍ وَرَأْسِ

وسلم يا الهى! بحرمت روح محمد اور راس

مُحَمَّدٍ وَرِزْقِ مُحَمَّدٍ وَرَفِيقِ مُحَمَّدٍ وَرِضَاءِ

محمد اور رزق محمد اور رفيق محمد اور رضاء

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ

محمد صلى الله عليه وسلم يا الهى! بحرمت

زُهْدِ مُحَمَّدٍ وَزَهَادَةِ مُحَمَّدٍ وَزَارِعِي مُحَمَّدٍ وَ

زهده محمد اور زهاده محمد اور زارعي محمد اور

زِينَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي

زينت محمد صلى الله عليه وسلم يا الهى!

بِحُرْمَةِ سَيَادَةِ مُحَمَّدٍ وَسَعَادَةِ مُحَمَّدٍ وَسُنَّةِ

بحرمت سيادت محمد اور سعادت محمد اور سنت

مُحَمَّدٍ وَسَبْرِ مُحَمَّدٍ وَسَلَامِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ

محمد اور سبر محمد اور سلام محمد صلى الله

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ شَرَعِ مُحَمَّدٍ

عليه وسلم يا الهى! بحرمت شرع محمد

وَشَرَفِ مُحَمَّدٍ وَشَوْقِ مُحَمَّدٍ وَشَادِ مُحَمَّدٍ

اور شرف محمد اور شوق محمد اور شاد محمد

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ

صلى الله عليه وسلم يا الهى! بحرمت

صِدْقِ مُحَمَّدٍ وَصَوْمِ مُحَمَّدٍ وَصَلَاةِ مُحَمَّدٍ

صدق محمد اور صوم محمد اور صلوة محمد

وَصَفَاءِ مُحَمَّدٍ وَصَبْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اور صفاء محمد اور صبر محمد صلى الله عليه

وَسَلَامٍ يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ ضِيَاءِ مُحَمَّدٍ وَضَمِيرِ

وسلم يا الهي! بحرمت ضياء محمد اور ضمير

مُحَمَّدٍ وَضَحَاءِ مُحَمَّدٍ وَوَضْعِ مُحَمَّدٍ صَلَّى

محمد اور ضحاه محمد اور وضع محمد صلى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ طَلْعَةِ

الله عليه وسلم يا الهي! بحرمت طلعت

مُحَمَّدٍ وَطَهَارَةِ مُحَمَّدٍ وَطَهْرِ مُحَمَّدٍ وَطَرِيقِ

محمد اور طهارة محمد اور طهر محمد اور طريق

مُحَمَّدٍ وَطَوَافِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

محمد اور طواف محمد صلى الله عليه وسلم

يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ ظَاهِرِ مُحَمَّدٍ وَظَهْرِ مُحَمَّدٍ وَ

يا الهي! بحرمت ظاهر محمد اور ظهر محمد اور

ظَلِّ مُحَمَّدٍ وَظُهُورِ مُحَمَّدٍ وَظَفْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّى

ظلل محمد اور ظهور محمد اور ظفر محمد صلى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ عَشْقِ

الله عليه وسلم يا الهي! بحرمت عشق

مُحَمَّدٍ وَعَرَافَاتِ مُحَمَّدٍ وَعِلْمِ مُحَمَّدٍ وَعَلْوِ

محمد اور عرفات محمد اور علم محمد اور علو

مُحَمَّدٍ وَعَلِيمِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

محمد اور علیم محمد صلى الله عليه وسلم

يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ غُرْبَتِ مُحَمَّدٍ وَغَارِ مُحَمَّدٍ

يا الهي! بحرمت غربت محمد اور غار محمد

وَعَرَّةِ مُحَمَّدٍ وَغَيْرَتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اور عرّة محمد اور غيرت محمد صلى الله عليه

وَسَلَامٍ يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ قَلْبِ مُحَمَّدٍ وَقَدَرِ

وسلم يا الهي! بحرمت قلب محمد اور قدر

مُحَمَّدٍ وَقِنَاعَةِ مُحَمَّدٍ وَقُوَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى

محمد اور قناعه محمد اور قوت محمد صلى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ فخر

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي! بحرمتي فخر

مُحَمَّدٍ وَفَقْرٍ مُحَمَّدٍ وَفِرَاقٍ مُحَمَّدٍ وَفَضْلٍ

محمد اور فقر محمد اور فراق محمد اور فضل

مُحَمَّدٍ وَفَضِيلَةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

محمد اور فضيلت محمد صلى الله عليه

وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ كَلَامِ مُحَمَّدٍ وَكَشْفِ

وسلم يا الهي! بحرمت كلام محمد اور كشف

مُحَمَّدٍ وَكُوشِشِ مُحَمَّدٍ وَكِتَابَتِ مُحَمَّدٍ

محمد اور كوشش محمد اور كتابت محمد

وَكَيْنَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور كينت محمد صلى الله عليه وسلم

يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ لَيْلِ مُحَمَّدٍ وَلِقَاءِ مُحَمَّدٍ

يا الهي! بحرمت ليل محمد اور لقاء محمد

وَلِيَاقَةِ مُحَمَّدٍ وَمُجَاهِدَاتِهِ مُحَمَّدٍ وَسَاهِدَاتِهِ

اور لياقت محمد اور مجاهدات محمد اور مشاهدات

مُحَمَّدٍ وَمُلَاحِظَةِ مُحَمَّدٍ وَمَسَاحَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى

محمد اور ملاحظه محمد اور مساحت محمد صلى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ نَارِ مُحَمَّدٍ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي! بحرمت نار محمد

وَنَارِ مُحَمَّدٍ وَنَصِيرِ مُحَمَّدٍ وَتَقْيِيرِ مُحَمَّدٍ

اور نار محمد اور نصير محمد اور تقير محمد

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ

صلى الله عليه وسلم يا الهي! بحرمت

وَرُودِ مُحَمَّدٍ وَوَقَائِ مُحَمَّدٍ وَوُجُودِ مُحَمَّدٍ

ورود محمد اور وقاير محمد اور وجود محمد

وَوَدِيعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور وديعت محمد صلى الله عليه وسلم

يَا إِلَهِي بِحُرْمَةِ هَمَّةِ مُحَمَّدٍ وَهَدَايَةِ مُحَمَّدٍ

يا الهي! بحرمت همت محمد اور هدايت محمد

وَهَدْيَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اور هديت محمد صلى الله عليه وسلم

من حاجی عجب خان نقشبندی سیفی حنفی قوم احمدزی در جرایم سنگین مقابل جهنمیان عارض هستم که در هوتل اورانوس بالای حلقه ذاکرین ولی اله جرم انتحار را انجام داده اند.

در مقابل این خوارج و داعشیان به تعداد 9 کتاب وجود دارد هر کسیکه قدرت و توان چاپ اش را داشته باشد باید به هر زبان ترجمه نماید و خدمت به اسلام نماید. سردار قوم خدمتگار قوم است باید از خارجی ها یاد بگیریم بخاطریکه هر کتاب را که پیدا میکنند به زبان خود ترجمه نمایند. منکرین حق همراه اقرار از مسائل حق انکار میکند و آن اشخاص الکاذبو لا امتی است.

تجمع گروه ضد اسلامی به نام (سیان) در شهر (کریستیناسند) برگزار و به سوزاندن یک جلد قرآن مجید پرداختند. لارس تورسن سرکرده این گروه در این تجمع برخی از صفحات قرآن کریم را داخل سطل زباله انداخت و به دنبال این اقدام یکی از افراد شاهد این اهانت با شخص درگیر شد و مانع وی شد.

پولیس در حال سرکرده این گروه ضد اسلامی و افراد مهاجم را بازداشت کرد که این شخص پیشتر نیز به جامعه مسلمانان ناروی در اسلو اهانت کرده بود.

دشمنی خود با مسلمانان را به تمام جهان علنی نشان دادند و نام نهاد گستاخان خوارج و روافض به ذریعه ترجمه قرآن و پیروان شان امت محمد مصطفی (ص) را میخواهد به آتش جهنم بیاندازد و آن علایم دشمنی به مسلمانها مثل آفتاب روشن است.

و آن شخص منافقین آخر زمان که در کشور انجام دادند ظالمان به دهن شیرین و قلب تلخ میباشد و به زبان دعوی اسلام دارند اما در قلب از آنکار میکنند و حادثه فوق الذکر را گمراهان ، ملحدین ، زندیقین و مرتد دین انجام داده و باید به مناظره علنی مشایخ احناف حاضر شوند.

نمایندگان خوفیه و گستاخان خوفیه که این کار را انجام داده کفر خویش را بر ملا کنند.

نام نهاد مسلمانها کاذبان است الکاذب لا امتی

من حاجي عجب خان نقشبندي سيفي حنفي قوم احمدزي در جرايم سنگين در مقابل همان جهنميان عارض هستم كه در هوتل اورانوس بالاي حلقه ذاكرين ولي الله جرم انتحار را انجام داده اند.

در مقابل اين خوارج و داعشيان به تعداد نه كتاب وجود دارد هر كسيكه قدرت و توان چاپ اش را داشته باشد بايد به هر زبان ترجمه نمايد و خدمت به اسلام نمايد.

سردار قوم خدمتكار قوم است

بايد از خارجي ها ياد بگيريم بخاطريكه هر كتاب را كه پيدا ميكنند به زبان خود ترجمه مينمايند.

منكرين حق همراه اقرار از مسائل حق انكار ميكنند و آن اشخاص الكاذبو لا امتي است.

قرآن شريف را علني به آتش كشيدند دشمني علني به مسلمانها به چشم سر در فيسبوك ديده شد و دشمني خود با مسلمان را به تمام جهان علني نشان دادند و نام نهاد گستاخان خوارج و روفض به ذريعه ترجمه قرآن و پيروان شان امت محمد مصطفي (ص) را ميخواهد كه به آتش جهنم بي اندازند و آن علايم دشمني به مسلمانها به مثل آفتاب و مهتاب روشن است.

و آن اشخاص منافقين آخر زمان كه در كشور انجام دادند ظالمان به دهن شيرين و قلب تلخ ميباشد و به زبان دعوي اسلام دارند اما در قلب از آن انكار ميكنند و حادثه فوق الذكر را گمراهان ، ملحدين ، زنديقين و مرتد دين انجام داده و بايد به مناظره علني مشايخ احناف حاضر شوند.

نمايندگان خوفييه و گستاخان خوفييه كه اين كار را انجام داده كفر خويش را بر ملا كنند.

نام نهاد مسلمانها كاذبان است الكاذب لا امتي

يَا اَللّٰهُمَّ يَا رُبِّي مُحَمَّدٌ وَيَكُنِّي مُحَمَّدٌ صَلَّى

يا الهي! ياري محمد اور يگانگي محمد صلوات

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ

الله عليه وسلم نهين سے کوئی عبادت کے لائق اللہ کے

رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اٰلِهِ

سوا محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و

اَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ دَمًا هُوَ الْمَكْتُوبُ فِي

اصحابہ وسلم بعد اس تعداد کے مطابق جو

لَوْحٍ وَالْقَلَمِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ وَسَاعَةٍ وَ

لوح و قلم میں لکھی ہوئی ہے ہر دن اور رات میں، ہر ساعت میں

نَقْسٍ وَ الْمَحِيَّةِ اَلْفِ مِائَةِ اَلْفِ مَرَّةٍ اِلَى يَوْمِ

اور سانس میں دس کروڑ مرتبہ یوم علم یعنی قیامت

الْعِلْمِ الْاِلٰهِيَّ اَوْلِيَاءِ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا

سہم آگاہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ تو خوف طاری ہوگا اور نہ ہی

هُمْ يَجْزُونَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

وہ علم زود ہوں گے تیری رحمت کیساتھ لے سب زیادہ رحم کرنے والے

صفاتِ ایمان و نماز پنجگانہ

صفاتِ ایمان اور نماز پنج گانہ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اِیْمَانٌ مُّفْصَلٌ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان مہرحم والا ہے
اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ
میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اسکے پیغمبروں پر اور آخرت

الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرَّكَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰی وَالْبَعْثِ
کے دن پر اور تقدیر پر کہ اچھی اور بُری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور قیامت کو
بَعْدَ الْمَوْتِ ۝ اِیْمَانٌ مُّجْمَلٌ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ

زندہ ہونے پر مرنے کے بعد
بِاسْمَائِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبْلَتْ جَمِیْعَ اَحْكَامِهٖ اِقْرَارٌ
وہ ہے اس کے ناموں پر اور جملہ صفات پر اور اسکے جملہ احکام کو قبول کرتا ہوں جن کا اپنی

بِاللِّسَانِ وَتَصْدِیْقٌ بِالْقَلْبِ ۝ اِذَانَ اللّٰهِ الْكِبْرُ
زبان سے اقرار کرتا ہوں اور دل سے یقین کرتا ہوں
اللّٰهِ الْكِبْرُ ۝ اَللّٰهُ الْكِبْرُ ۝ اَللّٰهُ الْكِبْرُ ۝ اَللّٰهُ الْكِبْرُ ۝ اَللّٰهُ الْكِبْرُ ۝

اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے
اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے

اَللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ

سوا کوئی معبود نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں میں گواہی دیتا ہوں
مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ
کہ بیشک محمد اللہ کے رسول ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ بیشک محمد اللہ کے

اللّٰهِ مِنْهُ كَرِهَ كَسَّ حَسَّ عَلٰی الصَّلٰوةِ حَسَّ عَلٰی الصَّلٰوةِ
رسول ہیں نماز کے لئے آؤ نماز کے لئے آؤ
بائیں طرف حَسَّ عَلٰی الْفَلَاحِ حَسَّ عَلٰی الْفَلَاحِ ط فحجر کی اذان
منہ کرے منہ کرے

نجات پانے کے لئے آؤ نجات پانے کے لئے آؤ
الصَّلٰوةِ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ۝ الصَّلٰوةِ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ۝
نماز اچھی ہے سونے سے نماز اچھی ہے سونے سے

اِقَامَتِیْنِ ۝ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ
اقامت میں زیادہ کرے
تعمیق نماز کھڑی ہو گئی تعمیق نماز کھڑی ہو گئی

كَبَّرَ اللّٰهُ الْكِبْرُ ۝ اَللّٰهُ الْكِبْرُ ۝ اَللّٰهُ الْكِبْرُ ۝ اَللّٰهُ الْكِبْرُ ۝
اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے

اَللّٰهُمَّ رَبِّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ
اے الہی تو پروردگار ہے اس کا بل او سے کا اور اس نماز کا

الْقَائِمَةِ اَيُّ مُحَمَّدٍ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَاللِّدْجَةَ
 جو قائم ہونیوالی ہے محمد کو وسیلہ دے اور بزرگی اور درجہ
 الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ
 بلند اور یعنی ان کو مقام محمود میں پہنچا دو جس کا تو نے ان سے وعدہ
 وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ط اِنَّكَ لَا تَخْلِفُ
 کیا ہے اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب کر بیشک تیرا وعدہ
 السَّبْعَادِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ط مَسَارِ
 خلاف نہیں ہوتا اپنی رحمت سے اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے
 سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَ
 اے خدا میرا دل تیری باری اور تعریف بیان کرتا ہے اور مبارک ہے تیرا نام اور
 تَعَالَى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ
 بلند سے تیری شان اور بجز تیرے کوئی معبود نہیں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی
 مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ
 شیطان مردود سے شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم
 الرَّحِيْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ
 والا مہربان ہے تعریف اور کمال کی کل بائیں اللہ کیلئے خاص ہیں جو جہاں کا پالنے والا ہے

الرَّحِيْمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ط اِيَّاكَ نَعْبُدُ
 نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے مالک ہے قیامت کے دن کا ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اللہ
 اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ط اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمَسْتَقِيْمَ
 تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہم کو راہ راست کی ہدایت فرما یعنی
 صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ
 ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے احسان کیا ہے اور نہ تباہی ان لوگوں
 عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ط اٰمِيْنَ ط قُلْ هُوَ اللّٰهُ
 کی راہ جن پر تیرا غضب ہوا اور ان کی راہ جو گمراہ ہوئے ہماری یہ دعا قبول کر کہ سے اے خدائے
 اَحَدٌ اللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْهُ لَمْ يُوْلَدْ وَ
 اللہ ایک ہے اللہ لے نیاز سے نہیں جتا اس نے اور نہ جتا گیا ہے اور
 لَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ط يَا اَوْ كُوْنِيْ بِحَمْدِكَ كُرْبَعًا
 نہیں ہے کوئی اس کی برابری کرنے والا سورۃ پڑھے پھر اللہ اکبر کہہ کر کعبہ
 اور تین نفع سبحان ربی العظیم پھر اللہ اکبر کہہ کر سیدھا
 پاک ہے میرا رب عظمت والا اللہ بہت بڑا ہے
 اَوْ رُطِّبْ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَكَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ
 جو کوئی اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ اس کو سنتا ہے اے پروردگار تعریف تیرے لیے ہے



پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدوں میں جائے سبحان ربی الاعلیٰ پھر
اللہ اکبر کہہ کر سجدوں سے پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ بھی اس طرح
اللہ اکبر کہہ کر سجدوں سے پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسری طرح دوسری رکعت
اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے

تَشْتَدُ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ
سب عبادتیں جو زبان اور بدن سے اور ہر عمدہ کام جو ادا ہو سکے اللہ ہی کیلئے

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
پس سلام ہو اور آپ کے اسے نبیؐ اور رحمت اللہ کی

وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ
اور برکتیں اس کی سلامتی ہو اور ہمارے اور اللہ کے نیک

الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ
بسنوں پر ہیں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی محبوب بجز اللہ کے اور گواہی

أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ شَرِيفٌ پڑھ کر نماز پوری کرے
دیتا ہوں کہ محمدؐ بیشک خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ
اگر نماز میں یا چار رکعت کی ہو تو پھر اللہ اکبر اللہ صلی علیٰ محمد
کہہ کر کھڑا ہو جائے اور باقی نماز پوری کرے

اللہ ہی تو رحمت کر محمدؐ پر

وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَ
اور محمدؐ کی اولاد پر جس طرح تو نے رحمت نازل کی ابراہیمؑ پر اور

عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ
ابراہیمؑ کی آل پر بیشک تو تعریف والا بزرگ سے الہی

بَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ
تو برکت بھیج محمدؐ پر اور محمدؐ کی اولاد پر جس طرح تو نے

عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ
برکت نازل کی ابراہیمؑ پر اور ابراہیمؑ کی آل پر بیشک تو تعریف والا

مَّجِيدٌ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ
سے بزرگی والا ہے لے میرے پروردگار کرے مجھے نماز درست رکھنے والا اور میری

ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي
اولاد کو بھی اے رب ہمارے میری دعا قبول فرما اے رب ہمارے بخش دے

وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ
مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور تمام مومنین کو جس دن حساب قائم ہو

رَبَّنَا إِنِّي فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ
اے رب ہمارے دسے ہم کو دنیا میں نیکیاں اور آخرت میں نیکیاں





دُرُودِ كِبْرِيَّتِ أَحْمَرَ

دُرُودِ كِبْرِيَّتِ أَحْمَرَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم کرنے والے ہیں

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ عِدَدًا وَاَنْحٰی

اے اللہ نازل کیجئے اپنی رحمتوں میں سے بہترین رحمت باعتبار شمار کے اور

بَرَكَاتِكَ سَرْمَدًا وَاَزْكِ تَحِيَّاتِكَ فَضْلًا وَّمَدَدًا

اپنی سب سے زیادہ تریختوں کو باعتبار دوام کے اور اپنے مسلمانوں میں پاکیزہ تر کو باعتبار فضل

عَلٰی اَشْرَفِ الْحَقَائِقِ الْاِنْسَانِيَّةِ وَمَعْدِنِ

اور معدن کے اوپر بزرگ ترین حقیقتوں انسانیت کے اور کان ایمان

الدَّقَائِقِ الْاِيْمَانِيَّةِ وَطُورِ التَّجَلِّيَّاتِ الْاِنْسَانِيَّةِ

والی باریکیوں کے اور اوپر طور (نام پہاڑ کا) احسانی تجلیات کے

وَمَهْبَطِ الْاَسْرَارِ الرَّحْمٰنِيَّةِ وَاوَسْطَةِ عَقْدِ

اور جائے نزول خداوندی بھیدوں کے اور پیوند دینے والے گره

التَّبْيِيْنِ وَمَقْدَمَةِ جَيْشِ الْمُرْسَلِيْنَ وَ

پیغمبروں کے اور ہراول لشکر پیغمبروں کے اور

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَاَزْوَاجِهِ

ہمارے آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل، آپ کے اصحاب و زوجات

وَذُرِّيَّتِهِ وَاَهْلِ بَيْتِهِ وَاَهْلِ طَاعَتِكَ

مطہرات، اولاد اور اہل بیت پر اور تیرے تمام اطاعت شعاروں

اجْمَعِيْنَ مِنْ اَهْلِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِيْنَ

پر جو آسمانوں اور زمینوں پر رہتے ہیں اسے جمع کرنے

بِرَحْمَتِكَ يَا رَحِمَ الرَّاحِمِيْنَ ط وَيَا كَرَمَ

والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے اور بے کرم کرنے والوں

الْاَكْرَمِيْنَ ط وَصَلٰى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى سَيِّدِنَا

میں سب سے زیادہ کرم کرنے والے اپنی رحمت سے (میری یہ التجا قبول فرما) حق تعالیٰ ہمارے

مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اجْمَعِيْنَ وَسَلٰمٌ

آقا و مولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور تمام اصحاب پر ہمیشہ ہمیشہ

تَسْلِيْمًا دَائِمًا اَبَدًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا ط

رحمت و سلامتی نازل فرمائے بہت زیادہ

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اور ہر قسم کی حمد و ثنا حق تعالیٰ ہی کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے

أَفْضَلِ الْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ حَامِلِ لُؤَاءِ
اور بہترین جملہ مخلوقات اٹھانے والے جھنڈے بزرگی
الْعِزِّ الْأَعْلَى وَمَلِكِ أَرْزَمَةِ الشَّرَفِ الْأَسْنَى
بڑی کے اور مالک مہاروں بزرگی روشن تر کے
شَاهِدِ أَسْرَارِ الْأَزَلِ وَمُشَاهِدِ الْأَنْوَارِ
واقف بھیدوں ازل کے اور دیکھنے والے انوار کے جو
السَّابِقِ الْأَوَّلِ وَتَرْجُمَانِ لِسَانِ الْقَدَمِ
سابق اور پہلے ہیں اور بیان کرنے والے زبان ہمیشگی کے اور
مَنْبِجِ الْعِلْمِ وَالْحِكْمِ وَمَظْهَرِ سِرِّ
چشمہ علم اور بردباری اور حکمتوں کے اور جائے ظہور بھید
الْجُودِ الْجَزْنِيِّ وَالْكَلْبِيِّ وَالنَّسَانِ عَيْنِ الْوَجُودِ
بخشش جزئی اور کلی کے اور پہلی آنکھ ہستی علوی
الْعُلُوبِيِّ وَالسُّفْلِيِّ وَرُوحِ جَسَدِ الْكُونِيِّ
اور سفلی کے اور جان جسم دونوں جہان کے اور
عَيْنِ حَيَاتِ الدَّاسِيَيْنِ الْمُنْتَخَلِقِ بِأَعْلَى
اصل زندگی دنیا اور آخرت کے توگیر ساتھ برترین

رُتْبَةِ الْعِبَادِيَّةِ الْمَتْحَقِّقِ بِأَسْرَارِ الرَّبُوبِيَّةِ
رتبہ بندگی کے ثابت آراستہ ساتھ بھیدوں ربوبیت کے
صَاحِبِ الْمَقَامَاتِ الْأَصْطِفَائِيَّةِ وَالذِّكْرَامَاتِ
صاحب مقامات برکزدگی کے اور کرامات
الْإِرْتِنَابِيَّةِ سَيِّدِ الْأَشْرَافِ وَجَامِعِ الْأَوْصَافِ
پسندیدگی کے سردار بزرگوں کے مجمع اوصاف حمیہ کے
الْخَلِيلِ الْأَعْظَمِ وَالْحَبِيبِ الْأَكْرَمِ الْمَخْصُوصِ
جو صاحب عظمت دوست ہیں اور محبوب ہیں کرم خاص کئے گئے
بِأَعْلَى الْمَرَاتِبِ وَالْمَقَامَاتِ وَالْمُؤَيَّدِ بِأَوْصَافِ
ساتھ بلند مرتبوں کے اور مقاموں کے اور مدد کئے گئے ساتھ روشن
الْبَرَاهِينِ وَالذَّلَالَاتِ الْمَنْصُورِ بِالرُّعْبِ
تیز دلیلوں اور رہنمائیوں کے مدد کئے گئے ساتھ رعب کے اور
الْمُعْجَزَاتِ وَالْجَوْهَرِ الشَّرِيفِ الْأَيْدِيِّ وَالنُّورِ
معجزات کے اور جوہر بزرگ دائمی اور نور قدیم
الْقَدِيمِ الْحَمْدِيِّ السَّرْمَدِيِّ سَيِّدِنَا
محمّدی سرمدی کے سردار ہمارے

مُحَمَّدٌ الْمَحْمُودُ فِي الْإِبْجَادِ وَالْوَجُودِ الْقَائِمُ
محمد کے پسندیدہ بیخ پیدائش کے اور ہستی کے ابتدا کرنے والے
لِكُلِّ شَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ وَحَضْرَةِ الشَّاهِدِ
واسطے ہر ایک دیکھنے والے اور دیکھے گئے کے اور درگاہ مکاؤں روشنی
وَالشَّهَادَةِ نَوْرٍ كُلِّ شَيْءٍ وَوَهْدَاهُ وَسِرِّ كُلِّ
اور ظاہر ہونے کے نور ہر چیز کے اور راہنما اس کے اور بھید ہر
سِرٍّ وَسَنَاهُ الَّذِي شَقَّقَتْ مِنْهُ الْأَسْرَارُ
بھید کے اور روشنی اس کے وہ ذات کہ کھولے گئے اس سے بھید
وَأَنْفَلَقَتْ مِنْهُ الْأَنْوَارُ السِّرَّ الْبَاطِنِ وَالنُّورِ
اور روشن ہوئے اس سے انوار باطن کے بھید کے اور نور
الظَّاهِرِ السَّيِّدِ الْكَامِلِ الْقَائِمِ الْخَاتِمِ الْأَوَّلِ
ظاہر کے سردار کامل ابتداء کرنے والے تمام کرنے والے اول
الْآخِرِ الْبَاطِنِ الظَّاهِرِ الْعَاقِبِ الْخَاتِمِ النَّاهِي
آخر پرستیدہ ظاہر پیچھے آنے والے اٹھانے والے منع کرنے والے
الْأَمْرِ النَّاصِحِ النَّاصِرِ الصَّابِرِ الشَّاكِرِ الْقَائِمِ
سلم کرنے والے نصیحت کرنے والے مدد دینے والے صبر کرنے والے شکر کرنے والے ڈھانگنے والے

الدَّاكِرِ الْمُبَاحِي الْمُبَاجِدِ الْعَزِيزِ الْحَامِدِ
ذکر کرنے والے مٹانے والے بزرگ غالب حمد کرنے والے
الْمُؤْمِنِ الْعَابِدِ الْمُتَوَكِّلِ الرَّاهِدِ الْقَائِمِ
یقین کرنے والے عبادت کرنے والے توکل کرنے والے زہر کرنے والے کھڑے ہونے والے
الْقَاعِدِ الرَّكَعِ السَّاجِدِ التَّائِبِ الشَّهِيدِ الْوَلِيِّ
نمازیں بیٹھنے والے رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے تائب گواہ دوست خدا
الْحَمِيدِ الْبُرْهَانَ الْحُجَّةِ الْبَطَائِعِ الْمُخْتَارِ
ستودہ دلیل حجت اطاعت کئے گئے برگزیدہ
الْمُخَاضِعِ الْخَاشِعِ الْبِرِّ الْمَسْتَنْصِرِ الْحَقِّ الْبَيِّنِ
عجز کرنے والے فروتنی کرنے والے نیک مدد کرنے والے راست و روشن
ظُهُ يُسِّ الْمَزْمَلِ الْمَدَّثِرِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
ظہر یس کیل پوش چادر پہننے والے سردار پیغمبروں کے
وَأَمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتِمِ النَّبِيِّينَ وَوَحِيدِ
اور پیشوا پرہیزگاروں کے اور آخر تمام نبیوں کے اور دوست
رَبِّ الْعَالَمِينَ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى وَالرَّسُولِ
پروردگار تمام جہانوں کے پیغمبر اور رسول

المجتبى والحكم العدل اللطيف الخبير

مقبول اور منصف عادل پاکیزہ خیردار

الحكيم العليم العزيز الرؤوف الرحيم الغفور

دانا جاننے والے غالب محبت والے مہربان بخشنے والے

الشكور العلي الكريم نورك القديم و

شکر کرنے والے برتر بزرگ آپ کے نور قدیم اور

صراطك المستقيم محمد عبدك و

راہ آپ کی جو سیدھی ہے محمد بندے تیرے اور

رسولك وصفيك وخليك وحيبك و

رسول تیرے اور برگزیدہ تیرے اور دوست تیرے اور حبیب تیرے اور

وليك ونيبك وامينك ودليلك ونجيك و

ولی تیرے اور نبی تیرے اور امانت دار تیرے اور تیرا دستہ دکھانے والا اور ہمارا تیرے

ونخبتك وذخيرتك وخيرتك وامام

اور برگزیدہ تیرے اور ذخیرہ تیرے اور خزانہ تیرے اور پیشوا

الخير وقائد الخير ورسول الرحمة النبي

خیر کے اور کھینچنے والے نیکی کے اور بھیجے ہوئے واسطے رحمت کے پیغمبر

الارحمي العربي القرشي الهاشمي الابطحي

انہی عرب کے رہنے والے قبیلہ قریش سے اولاد سے ہاشم کے بطحا والے

المكي المدني التهامي الشاهد المشهود

مکہ والے مدینہ والے تمامہ والے گواہ گواہی دینے والے

الولي المقرب العبد المسعود الحبيب الشفيق

دوست مقرب بندے نیک محبوب سفارش کرنے والے

الحبيب الرفيع البليغ الواعظ

صاحب حسب بلند مرتبہ ملاحظت والے نادر نصیحت کرنے والے

البنير التذير العطوف الحليم الجواد الكريم

بشارت دینے والے ڈرانے والے بہت مہربان تحمل والے سخی بخشش کرنے والے

الطيب المبارك المكين الصادق المصدق

پاک صاحب برکت صاحب مرتبہ سچے سچا کئے گئے

الامين الداعي اليك يا ذنك السراج المنير

امانت دار بلانے والے غلق کے طرف تیرے علم تیرے سے چراغ روشن


الذي ادرك الحقائق بجنتها وفاق

ایسے کہ جس نے جانا اصل چیزوں کو تمام دکھال اور کامیاب ہوئے اور بالا



الْخَلَائِقِ بِرِقَبَتِهَا وَجَعَلْتَهُ حَبِيبًا وَنَاجِيَتَهُ
ہونے مخلوقات پر ساری اور بنایا تو نے ان کو دوست اور ہوا کیا تو نے ان کو
قَرِيْبًا وَأَدْنَيْتَهُ رَقِيْبًا وَخَتَمْتَ بِهِ الرِّسَالَةَ
قرب ہے اور نزدیکی دی تو نے ان کو نگہبان ہو کر اور ختم کیا تو نے ان پر رسالت
وَالدَّلَالَةَ وَالْبَشَارَةَ وَالنَّذَارَةَ وَالنُّبُوَّةَ وَ
اور راہنمائی اور خوش خبری اور ڈرانے اور پیغمبری کو اور
نَصْرَتَهُ بِالرُّعْبِ وَظَلَمْتَهُ بِالسَّعْبِ وَرَدَدْتِ
مدد کی تو نے ان کی ساتھ دہشت کے اور سایہ دیا تو نے ان کو ایسا اور پھیرا تو نے
لَهُ الشَّمْسَ وَسَقَقْتْ لَهُ الْقَمَرَ وَأَنْطَقَتْ لَهُ
واسطے ان کے آفتاب کو اور پھاڑا تو نے واسطے ان کے چاند کو اور گویا تو نے واسطے
الصَّبَّ وَالطَّبِيَّ وَالذِّئْبَ وَالْجَذْعَ وَالذَّرَاعَ
ان کے سوسمار اور ہرن اور بھیرے کو اور تنہ درخت اور بازو
وَالْجَمَلَ وَالْجَبَلَ وَالْمَدْرَ وَالشَّجْرَ وَالْحَجْرَ
اور اونٹ اور پہاڑ اور ڈھیلا اور درخت اور پتھر کو
وَأَتَّبَعْتَ مِنْ أَصَابِعِهِ الْمَاءَ الزَّلَالَ وَ
اور لگا تو نے ان کی انگلیوں سے پانی مینچا اور

أَنْزَلْتَ مِنَ الْمَزْنِ بَدْعَوْتَهُ فِي عَامِ الْحَلِّ
نازل کی تو نے ابرسفید سے ان کی دعا سے بیچ سال تحوط
وَالْجَدْبِ وَأَيْلَ الْغَيْثِ وَالْمُهْرَ فَأَعَشَوْشِبَ
اور خشکی کے زوردار بارش اور مینھ پھر سری ہوئی
مِنْهُ الْفَقْرُ وَالصَّخْرُ وَالْوَعْرُ وَالسَّهْلُ وَالرَّمْلُ
اس سے سوکھی اور پتھری اور سخت زمین اور نرم زمین اور ریگستان
وَالْحَجْرَ وَالْمَدْرَ وَأَسْرَيْتَ بِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسِيدِ
اور پتھر اور ڈھیلا اور لے گیا تو ان کو ایک رات مسجد
الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا إِلَى السَّمَوَاتِ
کعبہ سے مسجد اقصی تک پھر بلند آسمانوں تک
الْعُلَى إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى إِلَى قَابِ قَوْسَيْنِ
پھر سردرة المنتہی تک پھر اس مقام تک کہ فرق دو گوشہ کمان کا
أَوَادِنِي وَأَرَيْتَهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى وَأَتْلَتَهُ الْغَايَةَ
یا اس سے کم تھا اور دکھائی تو نے لگو نشانی بڑی اور پہنچایا تو نے ان کو نہایت
الْقَصْوَى وَالْكَرْمَتَهُ بِالْمُخَاطَبَةِ وَالْمُرَاقَبَةِ
مرتبہ اعلیٰ کو اور بزرگی دی تو نے ان کو ساتھ باتیں کرنے کے اور نگہبانی کے



وَالشَّافِهَةَ وَالشَّاهِدَةَ وَالْمُعَايِنَةَ بِالْبَصَرِ
اور رُو ہوئے کے اور حضور میں جانے کے اور دیکھنے کے بینائی سے
وَخَصَّصْتَهُ بِالْوَسِيلَةِ الْعُظْمَى وَالشَّفَاعَةَ
اور خاص کیا تو نے اُن کو ساتھ دسینہ بزرگ کے اور سفارش
الْكَبْرَى يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ فِي الْمَحْشَرِ وَ
بڑی کے دن خوف بڑے کے محشر میں اور
جَمَعْتَ لَهُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَجَوَاهِرَ الْحِكْمِ وَ
جمع کیا تو نے واسطے اُن کے معنی خیز کلمات اور جواہر حکمتوں کے اور
جَعَلْتَ أُمَّتَهُ خَيْرَ الْأُمَمِ وَغَفَرْتَ لَهُ مَا
کیا تو نے اُن کی امت کو سب امتوں سے بہتر اور بخشتا تو نے اُن کی برائیاں
تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ الَّذِي بَلَغَ
کو جو اُن سے ہو چکی ہو (کسی خاص زمانہ میں) اور جو اس کے بعد ہوئی ہو وہ کہ پہنچایا
الرِّسَالَةَ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ وَنَصَحَ الْأُمَّةَ وَشَفَّ
انہوں نے احکام پیغمبری کو اور ادا کی امانت اور خیر خواہی کی امت کی اور دُور کیا
الْغُمَّةَ وَجَلَى الظُّلْمَةَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
غم کو . اور روشن کیا تاریکی کو اور کوشش کی اللہ کے راستہ میں

وَعَبَدَ رَبَّهُ حَتَّى آتَاهُ الْيَقِينَ اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ
اور عبادت کی اپنے رب کی یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی اسے اللہ بھیج اُن کو
مَقَامًا مَحْمُودًا يُعْبَطُ فِيهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ
مقام محمود میں کہ رشک کریں آپ پر اس میں پہلے اور پچھلے
اللَّهُمَّ عَظِّمَهُ فِي الدُّنْيَا بِأَعْلَى ذِكْرِهِ وَ
اسے اللہ بڑھائی دے اُن کو دنیا میں ساتھ بلند کرنے ذکر اُن کے کے اور
أَظْهَرِ دِينَهُ وَرِثَتَهُ شَرِيعَتَهُ وَفِي الْآخِرَةِ
ظاہر کرنے دین اُن کے کے اور باقی رکھنے شریعت اُن کی کے اور آخرت میں
بِشَفَاعَتِهِ فِي أُمَّتِهِ وَأَجْرُ أَجْرِهِ وَمَثْوِيَّتِهِ
ساتھ شفاعت اُن کی کے آپ کی امت میں اور عطا فرما اجر اور ثواب آپ کا
وَأَبْدِ فَضْلَهُ لِلْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ بِالْمَقَامِ
اور ظاہر کر فضیلت آپ کی سب پہلوں اور پہنچاؤں کے لئے مقام
الْمَحْمُودِ وَتَقَدِّمِهِ عَلَى كَأَفَى الْمُتَقَدِّمِينَ
محمود میں اور ساتھ مقدم کرنے اُن کے کے اور تمام مقبول حاضر
بِالشُّهُودِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ الْكَبْرَى
بارگاہ کے اسے اللہ قبول کر اُن کی بڑی شفاعت کو

وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ الْعُلْيَا وَأَعْطِهِ سُؤْلَهُ فِي الْآخِرَةِ
اور اونچا کران کے بلند درجہ کو اور عطا کران کو ان کے مطالب دنیا اور
وَالأُولَى كَمَا آتَيْتَ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى اللَّهُمَّ
آخرت میں جیسا کہ دیا تو نے ابراہیم اور موسیٰ کو اسے اللہ
اجْعَلْهُ مِنْ أَكْرَمِ عِبَادِكَ عَلَيْكَ شَرَفًا وَكَرَامَةً
کر تو ان کو اپنے تمام بندوں میں سب سے بزرگ باعتبار بڑائی کے اور کرامت
وَمِنْ أَسْرَفِهِمْ عِنْدَكَ دَرَجَةً وَأَعْظَمِهِمْ
کے اور سب سے بلند اپنے نزدیک باعتبار درجہ کے اور سب سے بڑا باعتبار
خَطْرًا وَأَمَكْنِهِمْ عِنْدَكَ شَفَاعَةً اللَّهُمَّ عَظْمُ
قدر کے اور سب سے توانا نزدیک اپنے باعتبار شفاعت کے لے اللہ با عظمت
بِرْهَانَهُ وَأَقْلِبْ حُجَّتَهُ وَأَبْلِغْهُ مَأْمُولَهُ فِي
کر ان کی دلیل کو اور ظاہر کر ان کی دلیل نبوت کو اور پہنچا ان کو ان کی آرزو تک
أَهْلِ بَيْتِهِ وَذُرِّيَّتِهِ اللَّهُمَّ اتَّبِعْهُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ
ان کے اہل بیت اور ان کی اولاد میں اسے اللہ پیچھے پہنچا تو ان کی اولاد سے
وَأُمَّتِهِ مَا تَقْرُبُهُ عَيْنُهُ وَأَجْزُهُ عَنَّا خَيْرُ
اور امت ان کی سے وہ نعمت کہ روشن ہو اس سے آنکھ ان کی اور بدلہ دے انکو

مَا جَزَيْتَ بِهِ نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ وَأَجْرَ الْأَنْبِيَاءِ
ہم سے بہت اچھا اس سے کہ دیا تو نے کسی نبی کو ان کی امت سے اور بدلہ دے تو سب
كَلِمَةٍ خَيْرًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا
نبیوں کو اچھا اے اللہ درود و سلام بھیج اور سردار ہمارے
مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا شَاهَدَتْهُ الْأَبْصَارُ وَسَمِعَتْهُ
محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بشمار اس کے کہ دیکھیں اس کو بینائیاں اور سنیں اس کو کان
الْأَذَانُ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ صَلَّى
اور درود اور سلام بھیج اوپر ان کے بشمار ان کے کہ درود
عَلَيْهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ عَدَدَ مَنْ لَمْ
بھیجیں ان پر اور درود و سلام بھیج اوپر ان کے بشمار ان کے کہ درود نہ
يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كَمَا تُحِبُّ
بھیجیں ان پر اور درود اور سلام بھیج اوپر ان کے جیسا کہ چاہے تو
وَتَرْضَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ
اور رضا ہو تیری اس میں کہ درود بھیجا جاوے ان پر اور درود اور سلام بھیج اوپر
كَمَا أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَصَلِّ وَسَلِّمْ
ان کے جیسا کہ حکم کیا تو نے کہ درود بھیجیں ہم اوپر ان کے اور درود و سلام بھیج



عَلَيْهِ كَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ
ان پر جیسا کہ سزاوار ہے یہ کہ درود بھیجا جاوے اُن پر اے اللہ
صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عِدَدَ نَعْمَاءِ
درود اور سلام بھیج ان پر اور ان کی اولاد پر بشمار نعمتوں اللہ
اللَّهُ تَعَالَى وَأَفْضَالِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ
تعالیٰ کے اور افزائشوں اس کی کے اے اللہ درود اور سلام بھیج ان پر
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَوْلَادِهِ وَأَزْوَاجِهِ
اور ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر اور ان کی اولاد پر اور ان کی بیویوں
وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ وَعِثْرَتِهِ وَعَشِيرَتِهِ
پر اور ان کی اولاد پر اور ان کے گھر کے لوگوں اور ان کے رشتہ دار اور قبیلہ اولاد
وَأَصْهَارِهِ وَأَخْتَانِهِ وَأَحْبَابِهِ وَاتَّبَاعِهِ وَ
پر اور آپ کے خسران پر اور دامادوں پر اور ان کے دوستوں پر اور ان کے
أَشْيَاعِهِ وَأَنْصَارِهِ خَزَنَةَ أَسْرَارِهِ وَمَعَادِنِ
پیردوں پر اور ان کے گروہ اور ان کے دوکان پر جو نگہبان ہے اُن کے بھیدوں کے
أَنْوَارِهِ كُنُوزِ الْحَقَائِقِ وَهُدَاةَ الْخَلَائِقِ وَمَجْمُومِ
اور کائیں ہیں اُن کے انوار کی خزانے حقیقتوں کے اور راہنما مخلوقات کے اور ستارے

الْأَهْتِدَاءِ لِمَنْ اقْتَدَى بِهِمْ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا
ہدایت کے واسطے اس کے جو اُن کی پیروی کرے اور سلام بھیج بہت بہت
كَثِيرًا دَائِمًا أَبَدًا وَأَرْضَ عَنْ كُلِّ الصَّحَابَةِ
سلام دائمی ہمیشہ اور راضی ہو تمام صحابہ سے
رَضَى سَرْمَدًا عِدَدَ خَلْقِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ
رضامندی دائمی بشمار خلق اپنی کے اور موافق وزن عرش اپنے
وَرِضَانِ نَفْسِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ كُلَّمَا ذَكَرَكَ
کے اور خوشی ذات اپنی کے اور موافق انداز سیاہی کلمات اپنے کے جب تک کوئی
ذَكَرَكَ وَكُلَّمَا سَهَى عَنْ ذِكْرِكَ غَافِلٌ صَلَوَةٌ
ذکر کرے جو الہ آپ کا ذکر کرے اور جب تک کوئی غافل آپ کا ذکر نہ کرے وہ درود
تَكُونُ لَكَ رِضَى وَحَقِيقَةً أَدَاءٌ وَلِنَاصِحًا
جو سبب ہو آپ کی رضامندی کا اور اُن کے حق کی ادائیگی کا اور ہمارے لیے
وَأَتِيَهُ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالذَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ
بھلائی کا اور سے اُن کو مقام وسیلہ کا اور فضیلت کا اور مرتبہ بلند و
الرَّفِيعَةَ وَأَبْعَثَهُ الْقَامَ الْمَحْمُودَ وَاللَّوَاءَ السُّعْفُودَ
برتر اور عطا کر اُن کو مقام محمود اور نشان بستر



وَالْحَوْضِ الْمُرْوَدِ وَصَلِّ يَا رَبِّ عَلَى جَمِيعِ
اور حوض کوثر وارد ہوگی امت اس پر اور رحمت بھیج اسے اللہ اوپر سب
اِخْوَانِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْأَوْلِيَاءِ
بھائیوں ان کے کے نبیوں اور پیغمبروں اور ولیوں
وَالصَّالِحِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصِّدِّيقِينَ وَمَلَائِكَتِكَ
اور نیکیوں اور شہیدوں اور صدیقوں اور اپنے ملائکہ
الْبَقَرِيِّينَ وَعَلَى سَيِّدِنَا الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ الدِّينِ أَبِي
مقربین میں سے اور اوپر سردار ہمارے شیخ محمد الدین ابو
مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْقَادِرِ الْبَكِّيِّ الْإِمِينِ صَلَوَاتُ
محمد عبد القادر جیلانی کے جو صاحب مرتبہ اور عامل امانت ہیں زمین
اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى
اللہ کی ان سب پر اسے اللہ درود اور سلام بھیج اوپر
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّالِفِينَ
سردار ہمارے محمد کے اور اوپر اولاد سردار ہمارے محمد کے کہ پہلے سے
لِلْخَلْقِ نُورَةَ الرَّحْمَةِ لِلْعَالَمِينَ ظَهْرَةَ عَدَدِ
سب خلقت سے نور ان کا رحمت ہے واسطے جہانوں کے ظہور ان کا موافق

مَا مَضَى مِنْ خَلْقِكَ وَمَا بَقِيَ وَمَنْ سَعِدَ
عدد کے اس مخلوق کے جو گذر چکی اور جو باقی ہے اور جو نیک بخت ہیں
مِنْهُمْ وَمَنْ شَقِيَ صَلَوةٌ تَسْتَعْرِقُ الْعَدَا
ان میں سے اور جو بد بخت ہیں ایسی رحمت جو شمار سے باہر ہو
وَيَحِيطُ بِالْحَدِّ صَلَوةٌ لَا غَايَةَ لَهَا وَلَا انْتِهَاءَ
اور متجاوز ہو حد سے وہ رحمت کہ نہ حد ہو اس کی اور نہ نہایت
وَلَا أَمَدَ لَهَا وَلَا انْقِضَاءَ صَلَوةٌ الَّتِي
اور نہ اغازہ اس کا اور نہ تمامی اس کی وہ درود اپنا کہ بھیجا تو نے
صَلَّيْتَ عَلَيْهِ صَلَوةٌ مَعْرُوضَةً عَلَيْهِ
اور ان کے ایسا درود کہ پیش کیا گیا اور ان کے
مَقْبُولَةٌ لَدَيْهِ مَحْبُوبَةٌ إِلَيْهِ صَلَوةٌ دَائِمَةٌ
قبول کیا گیا نزدیک ان کے محبوب ان کو درود ہمیشہ رہنے والا
يَدَاؤِمِكَ يَا قَبِيَّةُ بِبِقَابِكَ لَا مُنْتَهَى لَهَا دُونَ
ساتھ ہمیشگی تیری کے اور باقی ساتھ بقا تیری کے نہ انتہا اس کی جو بجز
عَلَيْكَ صَلَوةٌ تَرْضِيكَ وَتَرْضِيهِ وَتَرْضَى
علم تیرے کے ایسا درود کہ خوش کرے تجھ کو اور پسند کرے تو اسکو اور خوش ہو تو

بِهَآءِنَا صَلَوَةٌ تَنَالُ الْأَرْضَ وَالسَّمَاءَ مَقَامِ سَجْدَةٍ

بِسَبَبِ اس کے ہم سے ایسا درود کہ بھر سے زمین اور آسمان کو باقی عبارت نقل نامک

أَوَّلِ صَلَوَةٍ تَسْتَجِيبُ بِهَا دُعَائِنَا وَتُرْكِي بِهَا

سجدہ میں پڑھی ایسا درود کہ قبول کرے تو بسبب اس کے دعا ہماری اور پاک کرے تو

نَفْسِنَا وَتُحْيِي بِهَا قُلُوبَنَا وَتُحِلُّ بِهَا الْعُقَدَ وَ

بسبب اس کے ہماری جانیں اور زندہ کرے بسبب اس کے دل ہمارے اور کھولے بسبب

تُفْرِجُ بِهَا الْكُرْبَ مَقَامِ سَجْدَةٍ دَوْمٍ وَيَجْرِي بِهَا لَطْفُكَ

اسکے گریں اور ڈورا کرے تو اس سے سختیوں کو اور جاری ہو بسبب اس کے

فِي أَمْرِي وَأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ مَقَامِ سَجْدَةٍ سَوْمٍ وَبَارِكْ

میرا بانی تیری میرے کام میں اور کاموں میں سب مسلمانوں کے اور برکت دے

لَنَا عَلَى الدِّوَامِ وَعَافِنَا وَاهْدِنَا وَأَمِدُّ دُنَا

تو ہمیں اوپر ہمیشگی کے اور بچا تو ہمیں اور راہ بتا ہم کو اور مدد سے ہم کو

وَأَجْعَلْنَا أَمِينِينَ وَيَسِّرْ لَنَا أَمُورَنَا مَعَ الرَّاحَةِ

اور کر ہم کو بے خوف اور آسان کرے ہمارے لئے ہمارے کام ساتھ آرام

لِقُلُوبِنَا وَأَبْدَانِنَا وَالسَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ فِي

کے واسطے دلوں ہمارے کے اور بدنوں ہمارے کے اور ساتھ سلامتی اور عافیت کے

دِينِنَا وَدُنْيَانَا وَأَخْرَتِنَا وَتَوْفِقَنَا عَلَى الْكِتَابِ

ہمارے دین اور ہماری دنیا اور ہماری آخرت میں اور وفات دے ہم کو اور قرآن

وَالسُّنَّةِ وَاجْمَعْنَا مَعَهُ فِي الْجَنَّةِ مِنْ غَيْرِ

اور طریقہ پیغمبر کے اور ہم کو اس کے ساتھ جنت میں بغیر عذاب کے کہ درجوں جنت

عَذَابٍ يَسْبِقُ بِنَا وَأَنْتَ رَاضٍ عَنَّا غَيْرِ

سے پہلے ہو در آں حالیکہ تو خوش ہو ہم سے نہ

غَضَبَانَ وَلَا تَتَكَبَّرْ بِنَا وَاخْتِمْ لَنَا مِنْكَ

ناراض اور نہ آزمانا ہمیں اور خاتمہ کر ہمارا اپنی طرف

بِخَيْرٍ وَعَافِيَةٍ بِلَا مِحْنَةٍ أَجْمَعِينَ سُبْحَانَ

ساتھ بہتری اور عافیت کے بغیر محنت کے سب کا پائی سے یاد کرتا

رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ

ہوں پروردگار کو پروردگار بزرگی کا اس سے جو بیان کرتے ہیں مشرک اور سلامتی

عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اوپر پیغمبروں کے اور سب تعریف اللہ کو جو پائے والا جہانوں کے ہے

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

تیری رحمت سے اسے زیادہ رحم کر دے رحمت کرنے والوں سے

**Get more e-books from www.ketabton.com
Ketabton.com: The Digital Library**